

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

32

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلد تیس

• توبہ کی حقیقت

• علمائے کرام کے لئے ولپیر بہیات

• تقویٰ کا خصوصی اهتمام

• علمائے کے لئے صحیتِ صلحائی کی اہمیت




پیر طریقیت، رہبر شرعیت، مفکر اسلام

حضرت مولانا پیرزادو الفقار احمد نقشبندی ظیل

[besturdubooks.wordpress.com](http://besturdubooks.wordpress.com)

223 سنت پورہ، ضلع لاہور  
+92-041-2618003

مکتبۃ الفقیہ



# فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
31	کبائر کے مرتكب کی بدحالی	12	عرض ناشر
32	گناہ لکھنے میں انتقال	14	پیش لفظ
	گناہ ظاہر کرنے والے کی معافی	16	عرض مرتب
33	نہیں	21	<b>① توبہ کی حقیقت</b>
	دن کے فرشتے نرم، رات کے	23	وہ تن اسلام کا حسن
34	گرم		اللہ تعالیٰ کا عذاب والا نام کوئی
35	ندامت پر گناہ معاف	24	نہیں
35	افسوں سے گناہوں کی معافی	25	اسلام کی تعلیم
36	خوف خدا کی وجہ سے معافی	26	انسانی بر بادی کے تین اسباب
38	معافی مانگیں بار بار	26	(۱) حرام غذا
39	گناہ نیکیوں میں تبدیل	26	(۲) ناجنس کی صحبت
	گناہوں سے بچنے کا نصب	26	(۳) گناہ
40	ایسین ہو	28	گناہ کی سیاہی توہہ سے صفائی
41	اللہ سے رحمت کی امید رکھیں	29	گناہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے
	مسلمانوں کے گناہ کا بوجھ پہوڑو	29	اللہ کے سامنے نافرمانی.....!!!
42	انصاریٰ پر	30	گناہوں کی تین اقسام

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
56	طویل العرصے خصوصی رعایت	43	توبہ سے گناہ کا لحمد
54	چالیس سال کی عمر والے کو فیضت	44	اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے منتظر
57	تین غلطیاں معاف	45	اللہ کا محبوب
58	مرفوع القلم لوگ	45	توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی
58	گناہ گاروں کا غفور رب	45	خوشی
59	سعادت مندان ان	47	نجوanon کی توبہ
	معدرت کی شرمندگی اٹھانے سے	48	مخفی اور علانی گناہوں کی توبہ
59	بچپن	48	قیامت کے دن بے خوف انسان
60	استغفار کا معمول	49	توبہ کی حد
61	توبہ میں چھ چیزیں	49	توبہ میں ہال مٹول کرنا
63	ایک بادشاہ کی باندی کی توبہ	50	قبویت توبہ کا وقت
64	ایک شہزادے کی قابل رشک توبہ	51	توبہ تصویر کیا ہے
71	جنیتوں میں شامل ہونا مشکل نہیں	51	توبہ کی توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی
72	بیس سال بعد واپسی	52	صلوٰۃ التوبۃ
73	امید کا چراغ جلتا رہے	52	روضۃ الدس پر توبہ
73	اللہ کی رحمت اتنی وسیع	53	توبہ کا اہم مسئلہ
75	اللہ کی رحمت پر توکل	54	وسیعِ رحمتِ خداوندی
76	مناجات	55	شرک کا وبا

عنوان	صفحاتیں	عنوان	صفحاتیں
علمائے کرام کے لیے پذیرہ بدلایت	۱۲	دین کا علم محفوظ ہے	79
قرآن پاک میں علم کی اہمیت	81	مراد الہی محفوظ	99
احادیث میں طلب علم کی اہمیت	83	قرآن محفوظ	99
حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی	100	حدیث محفوظ	100
علمی حرص	85	علماء کا منصب صوفیا سے زیادہ	100
علم بڑھانے کے دراستے	85	اہم ہے	100
تفہم فی الدین کیسے ملتا ہے؟	86	بے عمل عالم گدھ کی مانند	101
حسن طلب	87	علمائے کرام کے لیے رہنمای	103
علم کی لگن اور لگن	88	ہدایات	103
محنت شرط ہے	89	اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا مرض	103
توفیق علم کے لیے دو چیزیں	90	اپنے اخلاص کا امتحان کرتے	104
(۱) ادب	90	رہیں	105
خدمت نے بخت لگایا	91	سب سے یکساں تعلق رکھیں	105
نکتے کی بات	93	عوام کے تابع بن کر رہے رہیں	106
(۲) تقوی	94	اہل دنیا سے مستغفی رہیں	106
علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے	94	غیر مقصود کے پیچھے نہ پڑیں	106
باطنی علوم کے حامل	95	نظامت کا اہتمام رکھنا چاہیے	107
جانے اور مانے میں فرق	97	فضلِ عظیم کی حفاظت کرنی	108
علم فرقان عطا کرتا ہے	98	چاہیے	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
119	حضرت انور شاہ کشیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی شان علمی	108	تمام شبہات کا جواب دینا ضروری نہیں
120	حضرت رشید احمد گنگوہی کی شان علمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	109	ذاتی عوارض کی بنا پر امر المعرفہ سے نہ رکیں
	حضرت مولانا فضل الرحمن <small>رحمۃ</small>		تحریر و تقریر میں مہارت ہونی
122	مراد آبادی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی علمی شان	111	چاہیے
	مولانا رشید احمد گنگوہی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے	111	مال پر ال نہیں پہنچانی چاہیے
124	خلفا کی علمی خدمات	113	علاما کافر بنا تے نہیں، بتاتے ہیں
126	تریتی مجالس کا مقصد		علاما کو سلوک میں مجاہدہ کم کرنا پڑتا
126	علاما کی نظر میں مجددین امت	113	ہے
	حضرت شیخ الہند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی		مضامین کو آسان بنانا کر پیش
129	با کمال شخصیت	114	کریں
133	(۲) تقوی کا خصوصی اہتمام		مدارس میں اصلاحی پیشات
135	تقوی کے معانی	114	کرواتے رہیں
135	تقوی کی لغوی تحقیق	115	اپنے اوپر سخت دوسروں پر زرم
136	تقوی کی اصطلاحی تعریف	115	علم کی نعمت پر اللہ کا احسان
	تقوی کے متعلق سلف صالحین		تین انلبیں کتابیں
138	کے اقوال	117	علم میں کامل ہونا مشکل ہے
141	تقوی کے ثمرات	118	علامے دیوبند کا کمل علم و عمل
		119	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
	سلف صاحبِ کتاب کے تقویٰ کے واقعات	141 142	ہر مشکل سے نجات کشائشِ رزق
155	نبی ﷺ کی کھانے میں احتیاط	142 144	کاموں میں آسانی عطا یے بصیرت
	حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا تقویٰ	144	محبوبیتِ الہی
155	حضرت عمر بن عبد العزیز ؓ کا تقویٰ	144 145	معیتِ الہی رزق میں برکت
	حضرت عمر بن عبد العزیز ؓ کا تقویٰ	145	زیادتِ علم
156	حضرت قاسم بن محمد ؓ کا تقویٰ	146	قبولیتِ اعمال
	حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کا تقویٰ	146	اللہ کی پشت پناہی
157	حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کا تقویٰ	146 149	ایک سبق آموز حکایت تقویٰ کی اہمیت
	امام اعظم ابو حنیفہ ؓ کے تقویٰ کے واقعات	149 150	قرآن میں تقویٰ کا پیغام متقی سب سے زیادہ سعادت
159	سیدہ فاطمۃ الزہرا ؓ کا تقویٰ	150	مند
	علماء و مشائخ کے تقویٰ کے واقعات	151	متقی سب سے زیادہ شرف والے
163	وقایت	152	اولیاء کاملہ
166	عورتوں میں تقویٰ	154	اولیاء کی قدر مشترک

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
علامہ ابن حجر عسقلانی	169	اکابر علمائے دیوبند کے واقعات	188
امام رازی	173	مشائخ نقشبند کے تقویٰ کے واقعات	188
شیخ الاسلام عبداللہ انصاری	176	اپنا موازنہ کریں	188
شیخ ابوالعباس عزالدین الفاروقی	177	آخرت کی سکریٹگ مشین	189
شیخ عبداللہ حنفی	178	آج اپنا محاسبہ کر لیں	189
ملحیون حنفی	181	(۲) علمائے لیے صحبت صلحائی اہمیت	189
امام غزالی	183	و نعمتیں	189
علامہ شاہی	183	علم کے ساتھ ترقیہ ضروری ہے	190
ملائیم الدین حنفی	184	پہلے مشائخ دونوں نعمتوں کے	190
مولانا جامی	184	حامل تھے	190
علامہ سید شریف جرجانی	185	انحطاط کی وجہ	190
شیخ عبدالحق محدث دہلوی	185	مشائخ علمائے لیے صحبت میں	191
قاضی ثناء اللہ پانی پتی	185	امام اعظم ابوحنیفہ	191
حضرت مولانا عبد الحق	186	امام مالک	192
دیگر علمائے دیوبند	186	امام شافعی	192
متعدد مشائخ سے اخذ فیض	186	ابوالعباس اہن شریح	192
صحبت کی تاثیر	187	امام احمد بن حنبل	193
دوسٹ، دوست کے دین پر	188	امام ابو داؤد	194

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
نظر کا لگنا بحق ہے عارفین کی نظر	195	فرمان	208
صحبت کے بغیر دین نہیں بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے	196	حضرت شیخ محمد دہلوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	
علماء کو صحبت مشائخ کی ضرورت حضرت مرشد عالم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا	199	کافرمان	208
مشائخ کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے	201	تقیدی نظر محرومی کا سبب	199
حسن رفاقت مطلوب ہے اتباع کی برکات	202	ساتھ	210
حضرت اشرف علی تھانوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کافرمان	204	اصلاح میں بڑی رکاوٹ سید حارستہ کونا ہے؟	211
امام غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کافرمان ابوالقاسم قشیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کافرمان	206	تقلید لازم ہے صحبت کی برکات	213
قاضی ثناء اللہ پانی پتی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فرمان	207	بے استادے بے بنیادے صحبت کارنگ کیسے چڑھتا ہے؟	215
حضرت محمد حصوم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کافرمان علامہ سید سلمان ندوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا	208	ذائقہ کا پتہ چکھنے سے لگتا ہے عشق کی دولت عاشقین سے ملتی	216
		ہے	219
		ترکیب کی اہمیت تعلیم اور تبلیغ پر علم کا بھرم	220
		تصوف کا کم از کم فائدہ	220
		صحبت سے دین میں صحیح پر ثبات	221

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
	223	نصیب ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت کے چار	
	224	فائدے	
	225	نسبت ملنے کی گارنٹی غیر مقلدین کے اکابر بھی تصوف	
	225	کے قاتل تھے حضرت رشید احمد گنگوہی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> پر	
	229	صحبت کا اثر حضرت مفتی محمد حسن <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> پر	
	232	صحبت کا اثر	
	234	کیمپلپوری سے کامل پوری	
	235	چہالت کا اندازہ	
	235	اگر کوئی شعیب آئے میسر	





وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾  
(سورة نور: ٣١)

## توہہ کی حقیقت

بيان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدۃ السالکین، سراج العارفین

حضرت مولانا پیرزاد الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: 16 جولائی 2010ء بروز جمعہ ۳ شعبان، ۱۴۳۱ھ

مقام: جامع مسجد نسب مسجد افقیر الاسلامی جنگ

موقع: خصوصی تربیتی مجلس برائے علماء طلباء (پہلی مجلس)

## اقتباس

اللہ کی طرف سے مہربانی دیکھیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوری طور پر گناہ نہیں لکھتا، اللہ نے گناہ والے فرشتے کو نیکی والے فرشتے کے ماتحت کر دیا۔ نیکی کا ارادہ کیا تو وہ نیکی لکھ لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھتا، حتیٰ کہ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ اب وہ اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کرو انتظار کرو۔ کتنا انتظار کرواتا ہے؟ چھ پھر انتظار کرواتا ہے۔ پوچھیں لکھنے میں آٹھ پھر ہوتے ہیں تو چھ پھر تقریباً سولہ گھنٹے بنتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے سولہ گھنٹے بعد بھی فرشتہ گناہ نہیں لکھتا کہ ہو سکتا ہے یہ قوبہ کر لے اور مجھے گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔

(حضرت مولانا پیر ذو الفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## توہبہ کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَکَفُی امَا بَعْدُ:  
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
۝ وَوَاعُوا إِلٰی اللّٰهِ جَمِيعًا أَيَّهُمْ مُّؤْمِنُونَ لَعْلَكُمْ تَفْلِحُونَ ۝

(سورہ نور: ۳۱)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِنُّونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝  
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

دین اسلام کا حسن:

دین اسلام کا حسن ہے کہ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہندو ازم میں توبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تو اگلے جنم میں جانور بنے گا۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جانور تو مجھے بنا ہی ہے تو اس جنم میں جو چاہو کرو تو ایک گناہ لا تعداد گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

جب کہ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ انسان جتنا چاہے گناہ کار کیوں نہ ہو ہر موڑ پر ہر لمحے اس کے لیے یہ دعوت ہے کہ اب اگر توبہ کرلو تو پچھلے گناہ معاف، ایک نئی زندگی کا آغاز کرلو، تو امید کی کرن رہتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کافر اور مشرک بھی ہے تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات کا ظہور ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔

## اللہ تعالیٰ کا عذاب والا نام کوئی نہیں:

علماء کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے نامے صفاتی نام ہیں جو حدیث میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک نام بھی ایسا نہیں جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ ننانوے کے ننانوے نام اس کی رحمت اور مہربانی پر دلالت کرتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جبار ہے۔ تو بھی جبار عربی کا لفظ ہے اردو کی زبان میں اس کے معانی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک لفظ ہے ”ذمیل“ تو اردو میں اس کا معنی ہے بے عزت انسان اور عربی میں اس کا معنی ہے کمزور انسان، لہذا قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ أَذْلَلُونَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۲۳)

”تحقیق اللہ نے مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے“

تو عربی میں معنی اور اردو میں معنی اور عربی میں ایک لفظ ہے دل، اس کا معنی ہے پہنچانے والا۔ ہماری زبان میں اس کا معنی بہت ہی برالیا جاتا ہے، یہ گالی کی مانند ہے، جبکہ عربوں میں اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ لہذا وہاں ایک کہنی ہے ”دل“ کہنی۔ شروع میں ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کوئی اور لفظ نہیں ملا، تو بعد میں بتایا گیا کہ جی اردو کے نہیں یہ عربی کے دلتے ہیں۔

ہماری زبان میں ایک لفظ ہے ”بندر“ یہ ایک جانور کا نام ہے۔ کسی کو گالی دئی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بندر۔ لیکن عربوں میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ تو ہم نے ایک شہزادے کا نام سنائی، بندر بن سلطان، ہم نے سوچا: یا اللہ! یہ باپ پر اتنا بوجھ تھا کہ باپ نے اس کا نام بندر رکھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں بندر پھول کو کہتے ہیں تو دونوں زبانوں میں لفظوں کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے۔

جاپر کا معنی اردو زبان میں جبر کرنے والا ہے لیکن عربی زبان میں اس کا معنی ہے جوڑنے والا۔ جیسے ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کے جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں۔ تو جابر کا اصل معنی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے اللہ ایسے انتظام کرتے ہیں کہ وہ واپس لوٹ کے آئے اور پھر جڑ جائے۔ جبار بھی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔

قہار ہماری زبان میں تو سمجھتے ہیں کہ بہت ظلم کرنے والا حالانکہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے بلندی والا۔ چنانچہ چوٹی کو قاہرہ کہتے ہیں، مصر کا ایک شہر بھی ہے قاہرہ۔ تو قاہرہ بلندی والا، غالب آنے والا، تو یہ بھی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔

اور کئی نام تو ہیں ہی ایسے جیسے:

غفار معاف کرنے والا۔

غفور معافی عطا کرنے والا۔

ستار گناہوں پر پردے ڈالنے والا۔

حليم قدرت کے باوجود سزا دینے میں، تاخیر کرنے والا۔

الله کتنا حلیم ہے کہ بندے کو گناہ کرتے بھی دیکھتا ہے اور عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے توصیاتی نام ہی ایسے ہیں۔

### اسلام کی تعلیم:

چنانچہ دینِ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ

(الْكَتَائِبُ مِنَ الدُّنْبِ كَمَنْ لَا ذُنْبَ لَهُ)

”گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں“،  
جیسے اگر آپ کوئی چیز بورڈ کے اوپر منادیں اور نئے سرے سے پھر لکھتا شروع کر

## انسانی بر بادی کے تین اسباب:

دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو گناہوں کی تین وجہات ہیں۔

### ۱ حرام غذا

پہلا ہے حرام غذا۔ یہ جو حرام اقمہ ہے نایہ بنیاد ہے۔ اگر روزی کے اندر رشوت شامل، سود شامل، مارکٹائی کامال شامل، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا اثر بھی ویسا ہی ہو گا۔ یا پھر رزق تو حلال ہو مگر چیزیں بازار کی خرید کر کھائیں، جن میں شبہ ہوتا ہے۔ آج کل تو اپنے پرانے سب کے ریٹورنٹ کھل چکے ہیں، جن کو حرام کا احساس ہی نہیں، ایسی چیزیں انسان کی روحانیت کو خراب کر دیتی ہیں۔

### ۲ ناجنس کی صحبت:

اور دوسرا ہے ناجنس کی صحبت۔ دنیا دار بندوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہنا، کثرت سے میل جوں رکھنا۔ جو اس راستے کاراہی نہیں اس کی صحبت نقصان دے گی، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔

### ۳ گناہ:

اور تیسرا چیز گناہوں کا ارتکاب کرنا۔ تو یہ تین چیزیں انسان کو بر باد کر دیتی ہیں۔ زندگی ایسی ہو کہ انسان گناہ کا مر تکب نہ ہو چنانچہ فرمایا کہ

«إِنَّ مَوْلَكَ لَا يَوَدُكَ حِينَ نَهَاكَ»

”تمہارا پروردگار تمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے تمہیں منع کر دیا“

ایسی جگہ میں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع فرمادیا۔ ہم ہر وقت اس چیز کا خیال ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ توبہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے۔ ہم عوام پر تو گناہوں سے بچنا لازمی، حضرت ذالنورین مصیری رض فرماتے تھے:

تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الدُّنْوِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِ مِنَ الْغَفْلَةِ

”عوام کی توبہ گناہوں سے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے“

اب کون بندہ ہے جو کہہ جی کہ مجھے غفلت ہی نہیں ہوتی، وساوس ذہن میں نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ عام ہو یا خاص توبہ تو ہر ایک کو کرنی چاہیے۔

سہل تستری رض کو ایک مرتبہ شیطان مل گیا، کہنے لگا: سہل بڑی نیکیاں کرتا پھرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قیامت کے دن مغفرت تو میری بھی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری تو نہیں ہوئی شیطان نے کہا کہ رب کریم کا فرمان ہے۔

﴿إِنَّ رَحْمَتِيٌّ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ﴾

توجب ہر چیز پر اس کی رحمت وسیع ہے تو میں بھی تو ایک چیز ہوں، لاشی اتو نہیں ہوں کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہر ایک کی مغفرت ہو گی مگر ایمان ضروری ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم نے تو پھر رحمت کو مقید کر دیا، اللہ کی رحمت تو علی الاطلاق سب کے اوپر ہے۔ اب سہل پر بیشان کہ اس بد بخت کو کیا جواب دوں؟ تو ہمارے علمانے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کی رحمت تو علی الاطلاق سب کے لیے ہے مگر کوئی اس میں داخل ہی نہ ہونا چاہے تو رحمت کا کیا تصور؟ تو شیطان بد بخت تو اس میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتا، اس لیے شیطان کی بخشش نہیں ہو گی۔ فیض الباری میں یہ

واقعہ نقل کیا گیا۔

اس توبہ کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں اکثر تو وہی ہیں جو آپ جانتے ہوں گے۔ تو ان کے تکرار سے ایک تو اعادہ ہو جائے گا اور یاد ہو جائے گا ﴿وَذِكْرُ فَيَنَّ الْذِكْرُ لِتَنْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور دوسرا کچھ ہی بتیں بھی سامنے آجائیں گی۔

**گناہ کی سیاہی توبہ سے صفائی:**

توبہ کی تفصیلات میں سے یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَقْطَةً فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سُودَاءُ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَقْلُ قَلْبٍ))

”بے شک جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار اور توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔“

جب کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو پھر دل سے نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ شیطان یہاں پر ایک داؤ لگاتا ہے کہ تو تو اتنے گناہ کرتا ہے نیکی کا کیا فائدہ؟ بھی! گناہوں کے نقطے دل پر لگ رہے ہیں تو نیکی کا صابن بھی تو دل پر لگنا چاہیے جو نقطوں کو مٹائے۔ اگر ہم گناہوں سے نہیں باز آ رہے تو نیکیوں سے کیوں باز آئیں۔ وسوسہ آتا ہے کہ تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نظر تو ہیری پاک نہیں، تو چیز بدجنت ذہن میں ایسے اشغال ڈالتا ہے۔ اس کو پوتے ہے کہ اگر یہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر جب پڑھتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک باب علم کا سیکھنا ایک ہزار رکھت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔

گناہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے:

گناہ انسان کی کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا:

((اتَّقُوا مَظَالِمَ مَا أَسْطَعْتُمْ))

ظلم کرنے سے بچو جتنا بچ سکتے ہوا!

((فَإِنَّ الرَّجُلَ يَجِدُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِحَسَنَاتٍ يَرَى أَنَّهَا سَتُّجِيهُ لَمَآيِزَ الْعِنْدَدَةِ لِكَ))

”بندہ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ وہ کہے گا بس میں تو نجات پا گیا، اتنی زیادہ میری نیکیاں“

((يَقُولُ إِنَّ لِفَلَانِ قِيلَكَ مُظْلِمَةٌ أَمْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا تَبَقِّيُ لَهُ حَسَنَةٌ)) (کنز العمال: ۱۰۳۸)

”کہا جائے گا فلاں شخص پر تیرا ظلم ہوا۔ لہذا یہ جو ظلم کیا تھا اس کی نیکیوں

میں سے پے منٹ کرو! حتیٰ کہ اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی“

تو معلوم ہوا کہ جو گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو کھا لیتے ہیں۔ حسد کے

بارے میں ویسے ہی فرمادیا:

((الْحَسَدُ يَا كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ))

”جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا

لیتا ہے“

اللہ کے سامنے نافرمانی!!!.....

مگر ایک توڑی ہے کہ نیکیوں کو کھا جائے گا، اس سے برا ذریحہ ہونا چاہیے تھا کہ

هم اللہ کے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا، نبی ﷺ سے، فرمایا:

**(لَا تَنْظُرُ فِي صِغَرِ الدُّنْوِبِ وَلَكِنْ اُنْظُرُوا عَلَى مَنِ اجْتَرَأَتْمُ)**

(حلیۃ الاولیاء ص: ۲۷۸، کنز الاعمال: ۱۰۲۹۳)

”گناہوں کے چھوٹے ہونے کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ کس کے سامنے تم نے گناہ کرنے کی جرأت کی۔“

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا اگر اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کے سامنے تم نے گناہ کیا۔ پچھے گواہ ہوتا تھا خوف ہوتا ہے اور کوئی بڑا گناہ پر گواہ ہو جائے تو دل میں خوف زیادہ آتا ہے۔ بندوں کا خوف دل میں اتنا ہے تو اگر پروردگار نے گناہ کرتے دیکھا پھر کتنا خوف ہونا چاہیے؟ گناہوں کو اس لیے چھوڑیں کہ اللہ دیکھتے ہیں۔ آج تو پچھلی قریب ہوتی نشہ حرکت نہیں کرتے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا: میرے بندے! جب گناہ کرنے لگتے ہو تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے دنیا دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟

### گناہوں کی تین اقسام:

حدیث شریف میں آیا کہ گناہوں کی تین قسمیں ہیں۔

❶ **ذُنْبٌ يُغْفَرُ**

”وہ گناہ جو معاف ہو جائیں گے“

❷ **ذُنْبٌ لَا يُغْفَرُ**

وہ گناہ جو بالکل معاف نہیں ہوں گے۔

﴿ وَذَنْبٌ يُحَاذِي فِيهِ ﴾ (طبرانی، کنز العمال: ۱۰۳۱۳)

اور وہ گناہ جن کا بدلہ دینا پڑے گا۔

مثال کے طور پر وہ گناہ جو معاف نہیں ہو گا وہ ہے (الشک بالله) اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔

وہ گناہ جو معاف ہو جائے گا وہ ہے بندے اور خدا کے درمیان کوئی معاملہ کہ اگر کوئی خطا ہو گئی اللہ سے معافی ہاٹک لواللہ معاف فرمادیں گے۔

اور جس کا بدلہ دینا پڑے گا وہ ہے بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔ اگر زیادتی کی ہے تو دنیا میں جزادے دو، بدلہ دے دو، معاف کرالو، ورنہ پھر قیامت کے دن تو جزادیٰ ہی پڑے گی۔ اس لیے جتنے گناہ زیادہ ہوں گے قیامت کے ران انسان کے لیے خدا کے حضور پیش ہونا تماشکل ہو گا۔

کبائر کے مرتكب کی بدحالی:

ابودرداء اللہ عزیز فرماتے ہیں:

«إِنَّ أَمَامَكُمْ شَقَةٌ كَوْدًا لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ»

(ابن الجبار، کنز العمال: ۱۰۳۲۰)

”تمہارے آگے ایک بہت خطرناک وادی ہے، اس کو کوئی بو جمل شخص نہیں پار کر سکے گا۔“

جیسے سامان سے بو جمل شخص کے لیے پانی کی کھال عبور کرنا مشکل ہوتی ہے ایسے ہی جس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہو گا تو یہ گھٹائی اس کے لیے عبور کرنا مشکل ہو جائے گی۔

حضرت علی ﷺ فرماتے تھے کہ بندے تین قسم کے ہیں فقراء، میریض اور

تا:- ۶۶

فقراء کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْفُقَرَاءُ أَصْدِقَاءُ اللَّهِ))

”فقراء اللہ کے دوست ہوتے ہیں“

اور میریض کے بارے میں فرمایا:

((وَالْمَرْضَى أَحِبَّاءُ اللَّهِ))

”اور جو میریض ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں“

اور تیرا فرمایا:

((فَمَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْبَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ)) (کنز اعمال: ۱۰۱۹۲)

”توبہ کی حالت میں جب فوت ہوا تو اس بندے کا مٹھکانہ جنت ہے،  
کیونکہ اس نے اب گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔“

### گناہ لکھنے میں انتظار:

اللہ کی طرف سے مہربانی دیکھیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوری طور پر گناہ نہیں لکھتا، اللہ نے گناہ والے فرشتے کو یہیکی والے فرشتے کے ماتحت کر دیا۔ یہیکی کا ارادہ کیا تو وہ یہیکی لکھ لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھتا، حتیٰ کہ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ اب وہ اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے صبر کرو انتظار کرو۔ کتنا انتظار کرواتا ہے؟ چھ پھر انتظار کرواتا ہے۔ چوبیں لکھنے میں آٹھ پھر ہوتے ہیں تو چھ پھر تقریباً سولہ لکھنے بنتے ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے سولہ لکھنے بعد بھی فرشتہ گناہ نہیں لکھتا کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور مجھے گناہ لکھنا ہی نہ پڑے۔ جب اتنی

دیر گزرنے کے بعد بھی شرم آتی ہے نہ افسوس ہوتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کو لکھ لیتا ہے۔

## گناہ ظاہر کرنے والے کی معافی نہیں:

ہاں ایک بندہ جس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ وہ ہے جو گناہ کرے اور پھر لذتیں لے لے کر دوسروں کو بتائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ أُمَّىٰ مُعَافَىٰ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ)) (کنز العمال: ۱۰۳۲۸)

”میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معافی ملے گی مگر اظہار کرنے والے والوں کو نہیں“

کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کارگزاری سنتے ہیں کہ جی میں بڑا سارٹ ہوں۔ او جی میں نے فلاں کو ایسے بیوقوف بنایا، میں نے تو ایسی بات کی کہ وہ جلتا ہی رہا ہوگا، سڑتا ہی رہا ہوگا۔ تو اس قسم کی گناہ کی باتیں کرنا اور پھر لوگوں کو بتانا اور کئی لوگوں کے تو اپنے گناہوں کے افیسر ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات افسانہ کی طرح سنتے ہیں، میں نے یہ کر دکھایا۔ ایسے کرنے والے کے لیے فرمایا کہ معافی نہیں ہے۔ یہاں لکھتے یاد رکھنا کہ ایک ہوتا ہے اپنے گناہ کے بارے میں کسی طبیب سے بات کرنا، کسی روحانی جسمانی طبیب سے بات کرنا، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ مثلاً میں ایک گناہ میں پھنسا ہوا ہوں، اب ایک عالم سے پوچھوں کہ میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو وہ اظہار نہیں کہلانے گا، وہ تو مدارک ہے، وہ تو علاج ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مرد کا اپنے ستر کو دوسرا مرد سے چھپانا فرض ہے لیکن اگر ان کے اوپر پھوڑ انکل آئے تو ڈاکٹر کے سامنے کھولنا جائز ہوگا۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ علاج

کرو۔ اسی طرح گناہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ میں گناہ چھوڑ کیسے سلتا ہوں؟ یا وہ دعا کر دیں کہ مجھے اللہ اس مصیبیت سے نجات دے دے، تو یہ چیز اس میں داخل نہیں ہوتی۔ گناہ کا بتانا الذمیل لے کر یہ شریعت نے منع فرمادیا۔

### دن کے فرشتے زم، رات کے گرم:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دن کے فرشتے زم اور رات کے فرشتے گرم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی ﷺ نے فرمایا:

«إِنَّ مَلِيشَةَ النَّهَارِ أَرَافُ مِنْ مَلِيشَةِ اللَّيْلِ» (کنز العمال: ۱۰۲۲۰)

”بے شک دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ زم ہیں“

دن کے فرشتے زم کہ بندے نے دن میں کام کاروبار کرنا ہوتا ہے لوگوں سے ملتا ہوتا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اور رات کو انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے تو فرمایا رات میں تو تم گناہ نہ کرو رات کو تو تم اللہ کی نافرمانی میں مت گزارو نا۔ اب تو چیچے کوئی بات نہیں کہ جی کام تھا، کاروبار تھا، غلطی ہو گئی، اب کیا غلطی۔ اس لیے رات کے فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنا�ا کہ وہ ذرا ناٹبیث ہیں لکھنے میں۔

دوسری بات یہ کہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توجہ اپنی تخلوق کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اس کی عنایات کے باوجود جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں۔

### ندامت پر گناہ معاف:

تاہم ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھا اگر اس نے اپنے دل میں

محسوس کیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ساری باتیں ندامت کہلاتی ہیں۔ غلطی کے اس احساس کا دل میں پیدا ہونا، اس کو ندامت کہتے ہیں اور ندامت کا مسئلہ ذرا سینے کیا مزے کا ہے! عائشہ صدیقہ رض فرماتی ہیں نبی ﷺ نے فرمایا:

**((مَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ نَّدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ مِنْهُ))** (کنز العمال: ۱۰۳۲۸)

”جب اللہ کسی بندے کے دل میں گناہ کے اوپر ندامت محسوس کرتے ہیں، اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ بندہ استغفار کرے۔“

اللہ اکبر! کتنا کریم پروردگار ہے! زبان پر لفظ آنے سے پہلے دل کی حالت کو دیکھ کر معاف کر دیتے ہیں کہ یہ اس سے نادم ہو رہا ہے۔ یہ افسوس کر رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رب کریم اتنے مہربان ہیں کہ بندے کی دل کی حالت پر اس کی بخشش فرمادیتے ہیں۔

## افسوس سے گناہوں کی معافی:

اور دل میں اگر افسوس ہو، ابو ہریرہ رض نبی ﷺ سے روایت فرماتے ہیں:

**((إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْمَلُ ذَنْبًا وَ إِذَا ذَكَرَهُ أَخْرَنَ))**

بندہ گناہ کرتا ہے اور جب یاد کرتا ہے تو یاد کر کے افسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اچھا نہیں کیا۔

**((وَإِذَا نَكَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ قُدْ أَحْزَنَهُ، غَفَرَ لَهُ مَا صَنَعَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي**

**((كَفَّارَتِهِ بِلَا صَلْوَةٍ وَ لَا صِيَامٍ))** (ابن عساکر، کنز العمال: ۱۰۳۲۸)

”اللہ پھر دل کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دل گناہ پر عتمگین ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ

اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس گناہ کے بد لے اس کی نماز کو اور روزے کو کچھ بھی کم نہیں فرماتے۔“

تو گناہ پر افسرده ہونے پر بھی معافی مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خلوتوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((حَقِيقٌ بِالْمُرءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَجَالِسٌ يَعْلُوُ فِيهَا يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا)) (شعب الایمان، کنز العمال: ۱۰۲۹)

”کہ بندے کے لیے لازم ہے کہ خلوت میں اللہ کے ساتھ ایسی مجلس ہو کہ وہ پرانے گناہوں کو یاد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔“

ہمارے مشائخ جو کہتے ہیں کہ روزانہ معمولات کے لیے وقت نکالو تو ان معمولات میں یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کو دیکھنا اور افسوس کرنا یعنی روز کے گناہ روز ہی معاف ہوتے جائیں۔

### خوف خدا کی وجہ سے معافی:

چنانچہ ایک تو ہے ندامت سے گناہ معاف ہوتا ہے، دل افسرده ہو تو گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ کے خوف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے خوف دل میں اگر آگیا تو اس پر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی نبی ﷺ سے۔

((قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لَا هِلْهِ إِذَا مَاتَ فَحَرَقُوهُ ثُمَّ اذْرَوْا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَ نِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ))

”ایک بندہ جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، موت کا وقت آیا تو گھر والوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جلا دینا، آدمی را کھہ ہوا میں اڑا دینا اور آدمی را کھ پانی میں بہار دینا۔“

((لَإِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيَعْذِبَنِي عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ))  
”اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پائی۔ اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس نے جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہو گا۔“  
((فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمْرَةَ))

”جب مر گیا تو لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسے اس نے کہا تھا“  
((أَمْرَ اللَّهُ بِرَا فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَ أَمْرَ اللَّهُ بِالْبُحْرَ وَ جَمَعَ مَا فِيهِ))  
”اللہ نے زمین کو حکم دیا تو راکھ کے جو ذرات اس میں تھے وہ جمع ہو گئے، پھر سمندر کو حکم دیا جو ذرات اس میں تھے وہ جمع ہو گئے۔ ساری راکھ کے ذرات جمع ہو گئے۔

پھر اللہ نے فرمایا: کہ کھڑا ہو جاوہ کھڑا ہو گیا  
((لُمَّا قَالَ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا؟))

”پھر کہا کہ میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟“  
((فَقَالَ مِنْ خَشِيتِكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ))

”تیرے ڈر کی وجہ سے اور تو جانتا ہے۔“

((فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ)) ”اللہ نے اسے معاف کر دیا“

کہ واقعی تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسے کیا تھا، میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔

## معافی مانگیں بار بار:

اب ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ معافی سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں مگر کتنی بار معافی؟ یہ تو نہیں کہ روز ہی کا و تیرہ ہو؟ روز گناہ کرو، روز معافی مانگو، تو اس بارے میں نبی ﷺ کا یہ ارشاد کنز العمال میں ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے:

(أَتَأْكُرَمُ وَ أَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أَسْتُرَ عَلَى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا  
ثُمَّ أَفْضِحُهُ بَعْدَ إِذْ سَرَّتُهُ)

”میں اس سے بلند ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ گناہ کرے اور میں پردہ ڈال دوں اور پردہ ڈالنے کے بعد اسے رسوا کروں۔“

اب کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے اور کسی کو پوتہ ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اور مخلوق کتنا نیک سمجھتی ہے جبکہ گناہ کتنے بڑے بڑے کیے۔ تو اگر اللہ نے دنیا میں ایک مرتبہ پردہ ڈال دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بلند ہوں کہ پھر اس کو رسوا کروں۔ تو بھی! جب اللہ نے پردے ڈال ہی دیے تو ہم اللہ سے معاف بھی مانگ لیں کاے اللہ! اب آپ معاف بھی فرمادیجیے۔

آگے فرمایا:

(وَ لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لِعَبْدٍ مَا اسْتَغْفَرَ نِيْ) (کنز العمال: ۱۰۲۵)

”اور میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔“

تو جب اللہ اتنے کریم ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار معافی مانگیں۔ یہ گناہوں کی معافی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حدیث پاک میں یوں فرمایا:

«لَوْلَمْ تَذَبَّبُوا لَا تَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَغْفِرُ لَهُمْ»

”اگر تم سارے فرشتہ صفت بن جاؤ کہ کوئی ایک گناہ بھی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اسی قوم کو پیدا کر دے گا کہ وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔“

### گناہ نیکیوں میں تبدیل:

اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں نبی ﷺ کا ارشاد ہے، حاکم نے اسکو روایت کیا ہے۔

«لَيَتَمْنَنَ إِقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ»

”تمنا کریں گے بعض لوگ کہ کاش ان کے گناہ زیادہ ہوتے۔“

یہ لام، ن نقیلہ کا صیغہ ہے۔

یہ کون لوگ ہوں گے؟

«الَّذِينَ بَدَأُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (کنز العمال: ۱۰۲۶)

”وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ ان کی نیکیوں میں تبدیل فرمادیں گے،“

وہ تمنا کریں گے کہ گناہ اور ہوتے تو نیکیاں اور بڑھ جاتیں جنت میں درجے اور بڑھ جاتے۔ ۴

مغفرت یوں ادھر آ میں گناہ گاروں کی ہوں

تو اللہ کی شان دیکھیں! گناہ کرنے والے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کئی

مرتبہ اللہ گناہ کو فائدے کا سبب بھی بنا دیں گے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سے  
 ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُنْفَعُ الْعَبْدَ بِذَنْبٍ يُذْنِبُهُ)) (کنز العمال: ۱۰۲۵)  
 ”کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو اس کے لیے فائدہ مند بنادیتے ہیں۔“  
 کیسے فائدے مند بناتا ہے؟ کہ وہ بندہ اس گناہ پر شرمدہ ہوتا ہے، روتا ہے،  
 اتنے اخلاص سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ اس گناہ کو نیکی بنادیتے ہیں اور وہ فائدے کا  
 ذریعہ بن جاتا ہے۔

چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بڑا خطا  
 کار اور گناہ گار رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرمادیا اور موسیٰ علیہ السلام کو  
 فرمایا: میرے بندے نے ایسی توبہ کی کہ اس کے ثواب کو پورے شہروالوں پر تقسیم کر  
 دیا جاتا تو شہر کے سب گناہ گار لوگوں کو معاف کر دیا جاتا۔ تو سبحان اللہ کہ وہ میں اسلام  
 کرتا خوبصورت دین ہے، شریعت میں کیا حسن ہے! جتنا بھی گناہ گار خططا کار پاپی ہو  
 اس کے لیے معافی کا امکان ہے، ابھی توبہ کرے ابھی گناہ معاف۔ اور زیادہ اخلاص  
 سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمادیتے ہیں۔

### گناہوں سے نجتنے کا نصب الحین ہو:

چنانچہ بنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا:

((إِنَّ الْعَبْدَ لِيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَذْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ))

”ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔“

((يَكُونُ نَصَبَ عَيْنِيهِ تَائِبًا فَارَأَ حَتَّى يَذْخُلَ الْجَنَّةَ)) (کنز العمال: ۱۰۱۸۸)

”اس کا نصب الحین ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے۔ اور وہ گناہ سے دوڑتا  
 ہے تو بھی طرف، حتیٰ کہ اللہ جنت میں داخل فرمادیں گے۔“

تو بھی تو ہم میں سے ہر ایک کا یہ نصب العین ہو کہ ہم نے اللہ کا فرمانبردار بندہ بنتا ہے۔ یہ نیت ہوزندگی کی، دل میں یہ نیت بٹھالیں، چاہے جتنے گناہ کرتا ہے نیت یہ بنالے کہ میں نے تو معافی مانگنی ہے اور گناہوں سے میں نے رکنا ہے۔ ہم کمزور ہیں ہمارا پروردگار تو گناہوں سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے آدمی نیت رکھے کہ میں نے پاک صاف زندگی اختیار کرنی ہے، جن غلطیوں میں اس وقت میں پھنسا ہوا ہوں ان سے لکھنا ہے، میں نے سود سے بچا ہے، رشوت سے بچا ہے، غصے کو کمزول کرنا ہے، میں نے اللہ کے بندوں کے دل نہیں دکھانے، جن افسوس میں پھنسا ہوا ہوں میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے، میں نے سیل فون کے فتنے سے بچا ہے۔ یہ نیت کر لیں پھر یہیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ کیونکہ علامے لکھا کہ جو شخص گناہ سے بچنے کا پاک ارادہ کر لیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو نیت تو کر لیں، یہ نصب العین ہو ہمارا کہ ہم نے اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے، میں! اس نصب العین کے ساتھ کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو معاف ہو جائے گا کہ نصب العین تو نیک بننے کا تھا۔

### اللہ سے رحمت کی امید رکھیں:

اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مند احمد اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔

«كَانَ رَجُلًا نَّمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِدَيْنَ وَ كَانَ أَحَدُهُمَا

يَذُنْبُ وَ الْآخَرُ يَعْتَدِدُ فِي الْعِبَادَةِ» (کنز العمال: ۱۰۲۲۸)

”بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ایک ان میں سے بڑا گناہ گار تھا اور دوسرا

بِإِنِّيْكَ پاک تھا“

وہ جو نیک پاک تھا جب اس گناہ گار کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا تو نے نہیں بخدا جانا۔  
وہ آگے سے کہتا:

((خَلِيلِيْ وَ رَبِّيْ))

مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دوا!

میں جانوں اور میرا رب جانے..... اس گناہ گار کو اللہ سے اتنی امید تھی، اللہ  
اکبر۔

حتیٰ کہ ایک دن اس نیک نے قسم کھا کر کہہ دیا:

((وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ))

”خذ قسم تو اتنے کرتوں کرتا ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔“

اس نے قسم کھائی، اللہ نے فرمایا کہ اچھا! یہ جو قسم کھا رہا ہے میں اس بندے کو جو  
میرے ساتھ رحمت کی امید رکھتا ہے معاف کر کے جنت عطا کر رہا ہوں اور اس  
بندے نے میرے بندے کو مجھ سے نامید کیا، لہذا میں اس کے لیے جہنم تیار کر رہا  
ہوں۔ تو ہم اللہ سے رحمت کی امید رکھیں کہ مغفرت فرمائے گا۔

مسلمانوں کے گناہ کا بوجھ یہود و نصاریٰ پر:

بہت پہلے حدیث پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے آج کے دور میں اس کا سمجھنا  
ذرا آسان ہو گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ اشعريؓ نے اس کو نقل فرمایا،  
مسلم شریف اور کنز العمال کی حدیث ہے۔

((يُبَجِّيءُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ نَاسٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ))

”قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے، جن کے گناہ

پہاڑوں کی طرح بڑے ہوں گے۔“

«فَإِنْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ وَيَضْعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»

(مسلم، کنز العمال: ۱۰۳۲)

اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور ان گناہوں کا بوجھ یہود اور نصاریٰ پر ڈال دیں گے۔

حدیث تو پہلے بھی سچی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، لیکن پہلے سمجھنا مشکل تھی اب سمجھ جانا آسان ہے۔ اب بتائیں کہ اگر کسی بدجنت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مسلمان حورت چھرو نہیں ڈھانپ سکتی تو اب جتنوں کے چہرے کھلیں گے تو گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ اپنے ملک میں جس نے کہہ دیا کہ جی لو ڈاڑھی والے اچھے نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی کٹوائے گا تو گناہ کس کو جائے گا؟ فاشی کو جنہوں نے عام کر دیا، جنہوں نے چینل کے ذریعے نگی فلمبوں کو عام کر دیا اور مسلمان نوجوان اس میں پھنس گئے تو ذریعہ کون بن رہے ہیں؟ اب سمجھ میں بات آئی، چودہ سو سال پہلے واقعی یہ بات اسی اللہ کے نبی ﷺ کی مبارک زبان سے نکل سکتی ہے، دوسرا بندہ کون یہ بات کر سکتا ہے؟ اللہ اس کے گناہ یہود و نصاریٰ کے اوپر ڈال دیں گے، یہ بدجنت وجہ بن گئے ہیں، مسلمان کو مسلمان بن کر رہے نہیں دے رہے۔ حورتیں ہماری پرده کرتی ہیں اور دل میں ان کے بوجھ ہوتا ہے، تسلی ان کو ہوتی ہے۔

**توبہ سے گناہ کا عدم:**

اس لیے حدیث پاک میں فرمایا:

«الْعَابِرُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» (نوادرالاصول، کنز العمال)

”کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں“

ایک نئی زندگی کا آغاز سب پچھلے گناہ معاف۔ یہ جو سیل فون پر کوئی مسجح آئے اور آپ Delet ڈیلیٹ (ختم) کر دیں تو اسی طرح توبہ بھی ڈیلیٹ کا اثر کی مانند ہے۔ آپ نے توبہ کی گناہ ڈیلیٹ ہو گئے، فائل ہی ختم۔ جیسے کمپیوٹر پر کام کرنے والے نے فائل پر کام کیا اور پھر فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہم بھی اپنے گناہوں کی فائل کو ڈیلیٹ کرتے جائیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑے کی فائل کھوئی ہوئی ہے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، چلو فائل ختم۔ کسی کے ساتھ نفسانی محبت کی فائل کھوئی ہوئی ہے تو بھی! اللہ سے معافی مانگ لیں، فائل کلوز۔ کسی کا لینا دینا ہے تو لے دے لیں فائل ختم۔ اپنے کروتوں کی فائلیں، ہم اسی زندگی میں کلوز کر دیں تاکہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جائیں تو وہاں ہمارے گناہوں کی کوئی فائل کھلنے والی نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس تیاری کے ساتھ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش ہو۔

### اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے منتظر:

اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم توبہ کرو میں قبول کرتا ہوں۔ سینے! اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے منتظر رہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رض روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ سے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ يُسْطُرِيَدَةَ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيْئُ النَّهَارِ»  
”رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے دن کے گناہ کرنے والے تو توبہ کر لے۔“

«وَيَسْطُرِيَدَةَ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيْئُ الْيَلِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (مسند احمد، مسلم، کنز العمال: ۱۰۱۸۶)

”اور دن کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اے رات کے گنہگار توبہ کر لے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گا۔“

سورج جب مغرب سے طلوع ہو گا اس وقت تک ایسا ہو گا کہ رات کو رحمت کا ہاتھ پھیلا دیں گے کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، دن میں رحمت کا ہاتھ پھیلا دیں گے کہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ منتظر ہے ہیں۔

### اللہ کا محبوب:

جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے علی رض نے روایت کیا ہے:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُقْتَنَى التَّوَّابَ»

(مسند احمد، کنز العمال: ۱۰۱۸۶)

”اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو آزمائش کے بعد توبہ کرے“  
 ”اللہ تعالیٰ اپنے اس توبہ کرنے والے بندے سے جو گناہ میں ملوٹ ہوا مگر توبہ کر لی، زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس سے پیار فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ گناہ میں بتلا ہوا یکین یہ گر کے پڑا نہیں رہا یہ گر کے کھڑا ہو گیا۔

### توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خوشی:

توبہ کرنے والے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے

فرمایا:

«اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا ضَلَّ رَأَيْلَتُهُ فِي أَرْضٍ فَلَمَّا قَدِمَ فِي يَوْمٍ قَاتِلٍ وَرَأَيْلَتُهُ عَلَيْهَا زَادَهُ وَمَزَادَهُ إِذَا ضَلَّ أَيْقَنَ



**بِالْهَلَّا كُ وَإِذَا وَجَدَهَا فَرِحَ بِذَلِكَ فَاللَّهُ أَشَدُ فَرْحًا بِتُوبَةِ عَبْدِهِ  
مِنْ هَذَا الْعَبْدِ بِوَجُودِ رَاحِلَتِهِ** (بخاری و مسلم)

”دوپہر کا وقت ہے، بندہ سویا ہوا ہے، ایک درخت کے سامنے کے نیچے یا کسی  
صحرا میں اٹھا تو دیکھا کہ اس کی اوپنی ہی سامان سمیت چلی گئی، راستے کا پتہ نہیں،  
پیدل طے نہیں کر سکتا، اور یقین ہو گیا کہ اب مجھے موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔  
اب اس مایوس بندے کو اگر سامان سے لدی اوپنی پھر مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے!  
فرمایا: جتنی خوشی مایوس بندے کو اوپنی دیکھ کر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار  
بندے کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔“

ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو الجون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

**((أَكَلَ اللَّهُ أَشَدُ فَرْحًا مِنَ التَّوْبَةِ التَّائِبِ مِنَ الصَّمَانِ الْوَارِدِ))**

ایک بندہ بڑا پیاسا ہوا اور اس کو نہ صندل اپنی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، تو فرمایا  
جتنی خوشی اس کو ہو رہی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔

**((وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَارِدِ))**

اور اگر کوئی عورت جو بانجھ تھی اور پھر اللہ نے اس کو امید لگادی تو امید لگنے کے  
بعد کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری شادی کوئی سال گزر گئے، اب اللہ نے بچے کی امید لگا  
 دی۔ تو فرمایا: جیسے بانجھ عورت کو بچے کے پیدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے اللہ کو بندے کی  
 توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

**((وَمِنَ الصَّالِ الْوَاجِدِ قَمَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً))**

اور تیسرا فرمایا: راستہ بھول جانے والا جب مایوس ہوا اور پھر اس کو راستہ مل جائے  
 تو جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اللہ کو توبہ کرنے والے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

«اَنْسَى اللَّهُ حَافِظِيهِ وَ جَوَارِحِهِ وَ بِقَاعَ الْأَرْضِ كُلُّهَا خَطَايَاهُ وَ ذُنُوبَهُ» (کنز العمال: ۱۰۱۶۶)

آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اور بندے کے اعضا کو اور زمین کے حصوں کو اس کی تمام علطیاں اور گناہ بھلا دیتے ہیں۔

تو توبہ کا ایک فائدہ یہ کہ توبہ کرتے رہیں تو پچھلا حساب کتاب ختم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کراما کاتبین کو گناہ ہی بھلا دیتے ہیں کہ کراما کاتبین کی یادداشت میں بھی نہ رہے۔

### نوجوانوں کی توبہ:

اور پھر نوجوان بندے کی توبہ کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں، انس بْنَ اللَّهِ سے روایت ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ شَابَّ التَّائِبِينَ (ابوالشخ، کنز العمال: ۱۰۱۸۵)

”بے شک اللہ تعالیٰ نوجوانوں کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں“

توبہ کرنے والے جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ گرم خون جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اوپر بڑا پیار آتا ہے۔ گھر شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہی دفعہ توبہ کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں: اے دوست! تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو موخر کرتے رہنا تیری عقل کے چراغ کے گل ہونے کی دلیل ہے۔ تیری مت ماری گئی کہ تو زندگی کی امید پر توبہ کو موخر کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے توبہ کرتے رہیں، کرتے رہیں تاکہ پچھلے گناہوں کا بوجھ سے اتر جائے۔

## مخفی اور اعلانیہ گناہوں کی توبہ:

کچھ گناہ انسان خفیہ کرتا ہے اور کچھ سب کے سامنے کرتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ مخفی گناہوں کی مخفی توبہ اور اعلانیہ گناہوں کی اعلانیہ توبہ کرے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”کتاب الزہد“ میں یہ حدیث مرسلاً روایت کی ہے۔

(إِذَا عَمِلْتُ سَيِّئَةً فَاحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ  
بِالْعَلَانِيَةِ) (کتاب الزہد، کنز العمال: ۱۰۱۸۰)

”اگر گناہ کیے ہوں تو توبہ کرو! خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور مجلس میں بیٹھ کے کیے ہیں تو بھی مجلس میں بیٹھ کے معافی مانگو۔“

## قیامت کے دن بے خوف انسان:

قیامت کے دن توبہ کرنے والا بے خوف ہوگا۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

((لَا أَجْمَعُ لِعَبْدٍ أَبْدًا أَمْنِيْنَ ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ خَوْفِيْنَ)  
”میں کسی بندے پر دو امن جمع نہیں کروں گا، نہ میں کسی بندے پر دخوف جمع کروں گا۔“

((إِنْ هُوَ أَمْنَى فِي الدُّنْيَا خَافِيْنِ يَوْمَ أَجْمَعَ فِيهِ عِبَادِيْ)  
”جو اس دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا وہ قیامت کے دن جب میں لوگوں کو جمع کروں گا خوف میں ہوگا۔“

((وَإِنْ هُوَ خَافِيْنِ الدُّنْيَا أَمْنَتْهُ يَوْمَ أَجْمَعَ فِيهِ عِبَادِيْ)

”جو اس دنیا میں میری خوف کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کر لے گا، میں اس بندے کو قیامت کے دن اپنے خوف سے امن عطا فرمادوں گا۔“

### توبہ کی حد:

اور گناہ کتنے ہو جائیں تو معاف ہو سکتے ہیں؟ کوئی حد کوئی لمحت تو ہوتی ہے کہ یہ تمہاری لمحت ہے اس نے کے اندر اندر توبہ کر لی تو معاف ورنہ پھر معافی نہیں ہو گی۔ توبہ کے لیے گناہوں کی کوئی لمحت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رض راوی ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمُ السَّمَاءَ ثُمَّ تَبْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (ابن ماجہ، کنز الاعمال: ۱۰۲۲۲)

اتنے گناہ تم نے کیے کہ اگر گناہ اور اشتحتے اشتحتے (پھاڑ تو کیا) آسمان تک اونچے ہو جائیں پھر بھی توبہ کر لو تو اللہ توبہ کو قول فرمائے گا۔

اور جو حقوق العباد ہیں ان سے بہت زیادہ فکر مندر ہیں کیونکہ قیامت کے دن جو ظلم ہو گا اور زیادتی ہو گی اس کے بد لے نیکیاں دینیا پڑ جائیں گی۔

### توبہ میں ٹال مشول کرنا:

اور یہ توبہ میں جو ٹال مشول ہے، یہ شیطان کا پاکا حرثہ اور داؤ ہے کہ اس کو توبہ کی امید لگائے رکھو، حتیٰ کہ موت آجائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے۔

«الْقَسْوَيْفُ شَعَارُ الشَّيْطَانِ يُلْقِيْهِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ»

(مسند الفردویں، کنز الاعمال: ۱۰۲۰۸)

”ٹالنا شیطان کا شعار ہے جو وہ مومنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے“

یہ جو تو بہ میں ٹال مٹول ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ مونوں کے اوپر یہ ہتھیار چلاتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں کل کر لینا، پسون کر لینا، بعد میں کر لینا۔ آج بچوں کو کہیں کہ یہ نیکی کا کام کرو، وہ کام کرو تو جواب ملتا ہے، میں کون سا اماں دادی بن گئی ہوں۔ سمجھتے ہیں کہ شاید اماں دادی بننے کے بعد نیک بننے ہیں، اس سے پہلے نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔

### قبولیتِ توبہ کا وقت:

موت سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے بندے کی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے۔ فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبُلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرِغْرُ)

(ترمذی، کنز العمال: ۷۸۷، ۱۰۱۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں جب تک غرغرہ نہ ہو“

موت سے پہلے یہ انسان کی جو سانس ہے ذرا تیز ہو جاتی ہے، تو تیز سانس سے حلق سے آواز آنے لگ جاتی ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں۔ یہ جو گنگہ و پنجھی ہیں، اس سے پہلے جس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جب یہ نگیا تو اس کی چھٹی۔ اس کے بعد تو فرعون نے بھی کہا تھا:

(﴿أَمْنَتُ بِرَبِّي مُوسَى وَهَارُونَ﴾)

((میں مویٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں))

فرمایا:

الآن اب توبہ کرتے ہو؟

اب تولیت ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم روزانہ توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ

ہمارے گناہوں کو معاف فرمادے۔

### توبۃ النصوح کیا ہے:

یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ ابن الہی حاتم نے روایت کیا نبی ﷺ نے فرمایا:

((الْتَّوْبَةُ النُّصُوحُ الْنَّدْمُ عَلَى الدَّنْبِ حِينَ يَقْرِطُ مِنْكَ فَتَسْتَغْفِرُ  
اللَّهُ ثُمَّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا)) (کنز العمال: ۱۰۲۰۲)

”گناہ جب سرزد ہو جائیں تو ان پر ندامت کا نام توبۃ النصوح ہے یوں کہ پھر تو اللہ سے توبہ کر لے اور اس طرف کبھی نہ لوٹنے کا ارادہ کر لے“  
 Nadam ہونا استغفار کرنا اور پھر دل میں پکا عہد کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا۔ تو ان چیزوں سے بندے کی کپکی توبہ ہو جاتی ہے۔

### توبہ کی توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی:

اور یہ توبہ کی توفیق اور مہلت بھی ہر بندے کو نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسجد میں آجاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے علمائی صلحاء کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں، کچھ دل نرم ہو جاتا ہے، کچھ موم ہو جاتا ہے، کبھی آنکھ میں آنسو آجائے ہیں اور کبھی دل میں ندامت آجائی ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ ہر بندے کو تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے عائشہ صدیقہؓ کو فرمایا:

((يَا عَائِشَةُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ مُرْخَى عَلَيْهِ))

”اے عائشہ! ہر بندے کو ڈھیل نہیں دی جاتی“

تو بھئی! اللہ نے اب تک ڈھیل دی ہے کہ گناہوں کے باوجود اللہ نے دنیا میں

رسوانہیں کیا۔ تواب ہم اس سے پہلے کہ کوئی عذاب کا کوڑا آئے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔

### صلوٰۃ التوبۃ:

ایک طریقہ توبہ کا یہ ہے کہ انسان دور کعت صلوٰۃ التوبہ پڑھ لے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ عَبْدٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحِسِّنُ الْوَضْوَءَ ثُمَّ يَتُوَمَّ فَهُوَ مُصْلٌِّ  
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ)

(کنز العمال: ۱۰۲۸)

تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے کہ اگر کوئی دور کعت توبہ کی پڑھ کر اللہ سے گناہ کی معافی مانگے گا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرمادیں گے۔

### روضۃ اقدس پر توبہ:

اور اگر کبھی حج پر جانے کا موقع ملے تو بیت اللہ کے سامنے اور روضۃ الرسول ﷺ کے سامنے نبی اکرم ﷺ کو سفارشی بنا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پردہ فرمانے کے تین دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈال کر رونے لگ گیا، اس نے روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ جو قرآن لے کر آئے اس میں ہے کہ

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا النَّفَسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُو اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ  
الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا﴾ (الصفہ: ۶۳)

”اگر یہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی استغفار کریں تو



اے اللہ کے نبی ملکیت اپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔“  
 اس نے گزگڑاتے ہوئے یہ آہ وزاری کی کہ میں بھی یا رسول اللہ ملکیت اپ کے  
 پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے لیے بخشش طلب فرمائیں تو قبر مبارک سے ندا  
 آئی کہ تیرے لیے بخشش کر دی گئی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲، ص ۳۲۹، کنز العمال: ۱۰۲۲)  
 چنانچہ اللہ جب اس جگہ پر پہنچائے تو ہم بھی نبی ﷺ کو سفارشی بنا کر اپنے  
 گناہوں پر معافی مانگ لیں۔

### توبہ کا اہم مسئلہ:

توبہ کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر تودہ ہے اللہ کے حقوق سے متعلق کہ  
 نمازیں نہیں پڑھیں، واجبات ادا نہیں کیے تو فرض اور واجب کا اعادہ کرنا ہوتا ہے۔  
 توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ بھی! جب ہم نے اللہ سے توبہ کر لی تو اس سے سانحہ سال کی  
 نمازیں معاف۔ ہر فرض واجب کو ادا کرنا ہوتا ہے۔

اور اگر انسان کی عمر ایسی ہے کہ آخری وقت آگیا، اب احساس ہوا اور یہاں رہ بھی  
 ہے تو شریعت نے کہا کہ بھی! اس کافدیہ دے دو۔ اس حالت میں ہو کہ نہیں پڑھ سکتے  
 تو فردیہ ادا کر دو اور فردیہ ادا کر دینے کے بعد بھی دل میں نادم رہو، اللہ سے معافی  
 مانگ لو۔

اور اگر وہ گناہ کسی بندے سے متعلق ہے تو فرمایا کہ اس بندے کا حق ہے تو ادا  
 کرو، نہیں کہ جی میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اب کسی سے پانچ لاکھ قرض لیا  
 تھا تو سب معاف، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ میں حج کر کے آیا ہوں جتنے لوگوں کا پیسہ  
 دینا تھا وہ سب معاف، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ جو مال لیا اس کو ادا کرنا پڑے گا، جو  
 غبیتیں کیں ان کی معافیاں مانگنی پڑیں گی، جو زیادتیاں کیں ان کی معافیاں مانگنی پڑیں

گی۔

اور اگر وہ بندے دنیا سے چلے گئے تو ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دو کہ اے اللہ! بندے تو چلے گئے معاف تو کر انہیں سکتا، یہ جو پیسہ میں دے رہا ہوں ان کی طرف سے صدقہ کے طور پر خرچ کرتا ہوں، اللہ سے اتنا بڑھادینا کہ قیامت کے دن جتنا وہ چاہیں، یہ ثواب اتنا ہو جائے کہ وہ راضی ہو جائیں۔

### وسعۃ رحمتِ خداوندی:

تاہم اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جِينَ خَلْقَ الْخَلْقِ كَبَرَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَكَرَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»

”جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے آپ سے یہ لکھا میری رحمت میرے غصب کے اوپر غالب ہے۔“

رحمت زیادہ ہے۔

چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتِنِي رَجُوتِنِي عَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي»

”اے ابن آدم تو توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، روئے دھوئے گا، میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہی نہیں۔“

«يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغْتُ ذُنُوبُكَ أَنَّ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَغْفِرْتُنِي عَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي»

”اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو معافی مانگے گا تو  
میں پھر بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پروابیں ہو گی۔“

(بِسَابِنَ آدَمَ لَوْ أَنْكَ الْيَتِينِيُّ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا نُمَّ لَقِيتِنِي  
لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَا يَتِيكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً) (ترمذی، کنز العمال: ۱۰۲۱۶)

اگر تو جتنی زمین ہے اگر یہ گناہوں کی بھری ہوئی میرے پاس لائے اور میرے  
سامنہ اس حال میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو گا۔ تو میں اتنا ہی  
بڑا مغفرت کا پہاڑ لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

### شرک کا و بال:

ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک غنی، شرک جلی تو ہم سمجھتے ہیں کہ  
بندے کو سجدہ کرنا یا درخت کو سجدہ کرنا یا مورتیوں کو سجدہ کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرک  
ہے۔

ایک ہے شرک غنی، اس کا ڈر زیادہ ہے اور بہت لوگ اس کے مرکب ہوتے  
ہیں اور وہ کیا ہے؟ مساوی سے محبت کرنا، یہ جو مخلوق سے شیطانی نفسانی شہوانی محبتیں ہیں  
تھیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی نفس کو پوچھتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بت پرست، ایک ہوتا ہے زر  
پرست، ایک ہوتا ہے زن پرست، اور ایک ہوتا ہے نفس پرست۔ تو یہ نفس پرستی یا زن  
پرستی ہے، یہ بت پرستی کی اقسام میں سے ہے، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔

صح شام مساجد میں جماعت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور مسیح بھی رہے ہوتے ہیں اور  
پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو خفیہ شرک ہے ناجو کر رہے ہوتے ہیں۔ ”تو میرا  
دین ایمان جنمیا“ کہ مخلوق کے ساتھ ایسی محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے حکم کو  
چھوڑ اور مخلوق کو محبت کے لیے پسند کیا۔ یہ نفس پرستی اور خفیہ شرک آج کے زمانے میں

بہت زیادہ ہے۔ اگر مجھے میں دیکھا جائے کہ کس گناہ کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے تو آج کے دور میں اکثر لوگ اس سیل فون کی مصیبت کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ کہیں نہ کہیں گناہ کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تجدب بھی پڑھتے ہیں، اور ذکر بھی کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں رپڑا بھی ہے۔ یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، تب اللہ کی محبت کی حلاوت نصیب ہوگی۔

### طویل العمر سے خصوصی رعایت:

ہاں اگر توبہ کرنے والا زیادہ عمر کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نزی فرمادیتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے تاکہ جب ذرا عمر میں بڑا ہو جائے تو بوجھ گھٹادیتے ہیں لذ بھی اتنی سروں والا ہو گیا، اب تھوڑی محنت کرے گا ہم زیادہ تنخواہ دے دیں گے۔

حدیث پاک میں ہے:

«إِذَا بَلَغَتُ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي سِتِّينَ سَنَةً لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي  
الْعُمُرِ»

”میری امت کا بندہ جب ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی عمر کے ساتھ سال کو عذر کے طور پر قبول فرمائیتے ہیں“

یہ ساٹھ کا ہو گیا کلمہ پڑھتے پڑھتے، اب میں اس بندے کو کیا عذاب دوں؟ میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔

### چالیس سال کی عمر والے کو نصیحت:

ایک حدیث پاک میں علی بن ابی ذئب نے روایت کیا، نبی ﷺ نے چالیس سال کی عمر

کو پہنچنے والے کو نصیحت فرمائی۔

«إِذَا أَكَالَ الْعَبْدُ أَرْبَعْوَنَ سَنَةً يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخَافَ اللَّهَ وَ يَحْزَنَ»

”کہ جب بندہ چالیس سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔“

گناہ کرتے کرتے چالیس سال ہو گئے، اب تو اسے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اب وہ جوانی متنافی تو نہیں رہی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر گناہ کرتے کرتے ہو جائے اور بندہ توبہ نہ کرے تو پھر شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ تو میرا پکار ریا ہے، اب تیرا میرا رشتہ نہیں ثوث سکتا۔ بھی! اس سے پہلے کہ شیطان کے مریدوں میں نام لکھا جائے، ہم رحمن کے بندوں میں نام لکھوالیں، توبہ کر کے۔

### تین غلطیاں معاف:

تین غلطیاں اللہ نے اس امت سے اٹھائی ہیں، یہ نبی ﷺ کی رحمۃ للعالمین کا صدقہ ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

«رُفَعَ عَنْ أُمَّتِيُّ الْخَطَاوَ النِّسِيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا إِلَيْهِ»

(کنز العمال: ۷۰۳، ۷)

”میری امت سے خطا، نسیان اور جبر سے کیا ہوا کام اٹھالیا گیا“

تین گناہ ہیں جو اللہ نے امت سے معاف کر دیے، ایک خطا اور دوسرا بھول چوک نسیان اور تیرسا کہ دل راضی نہ ہو اور پھر گناہ کرنا پڑ جائے، جبر کے ساتھ کوئی گناہ کروانے، بندے کا دل نہیں چاہتا۔ **﴿إِلَّا مَنْ أَنْجَرَهُ وَ قَلْبُهُ مُعْلَمٌ بِهِ﴾**

بِالْإِيمَانِ يَهُدِي اللَّهُ كَيْفَ تُكْثِرُ بِرَبِّ رَحْمَةٍ -

## مرفوع القلم لوگ:

اور تین بندے تو ایسے ہیں کہ ان کا عمل لکھا ہی نہیں جاتا۔

«رُفَعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَاقِبَةٍ»

”تین بندوں سے قلم اٹھایا گیا۔“

فرشتوں کو کہہ دیا کہ تم نے کچھ نہیں لکھنا۔ کون سے تین بندے؟

(۱) ..... «عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَشْلِهِ حَتَّى يَرَحَ»  
”مجنون بندہ جو پا گل ہو۔“

(۲) ..... «وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقَظُ»

”سونے والا جب تک وہ اٹھنے جائے۔“

سونے کی حالت میں اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ معاف ہے۔

(۳) ..... «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلَمْ» (ابن تجارت، نزاع العمال: ۱۰۳۹۵)

”اور چھوٹا بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔“

تو تین کے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔

## گھٹا ہر گاروں کا غفور رب:

اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل

ہو اتیں نے سونے کے ساتھ تین سطر میں لکھی ہوئی دیکھیں، پہلی پر لکھا ہوا تھا۔

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

اور دوسرا سے پر لکھا تھا:

«مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا، وَمَا أَكْلَنَا رَبِحْنَا، مَا خَلَفْنَا خَسِرْنَا»

”جو ہم نے آگے بھیجا اس کو ہم نے پالیا، (یعنی نیک اعمال)

”اور جو ہم نے کھالیا ہم نے اس کا فتح اٹھالیا۔“

”اور جو چیز ہم چھوڑ آئے وہ خسارے میں۔“

مال اس نے جمع کیا، لطف اس کی اولاد نے لیے، حساب اسے دینا پڑ گیا۔

اور تیسرا سطر:

«أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبُّهُمْ غَفُورٌ» (ابن نجاش، کنز العمال: ۱۰۳۹۵)

”کہ یہ امت گناہ کار ہو گی مگر ان کا پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔“

### سعادت مندان انسان:

اس لیے کسی بندے کو عمر نیکی والی ملے تو وہ سعادت مندان انسان ہوتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

«إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمُرِئِ إِنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ مِنْ إِنَابَةٍ»

(مستدرک، حاکم، کنز العمال)

”بندے کی سعادت میں سے ہے کہ عمر لمبی ہو اور اللہ اسے نیکی اور انابت کی توفیق عطا فرمادے۔“

یعنی عمر بھی لمبی ہو اور نیکی کی بھی توفیق ملے تو وہ سعادت مندان انسان ہے۔

معدرت کی شرمندگی اٹھانے سے بچیں:

لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے کہ معدرت ہی نہ کرنی

پڑے۔ آپ کپڑے کو کاٹ کے سین تو جڑ تو جاتا ہے مگر پہلے جیسا تو نہیں ہوتا، تو بھی افضل تو وہی جو کوئی گناہ ہی نہ کرے۔ نبی ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا:

((أَقْلِمِي مِنَ الْمُعَاذِيْرُ)) (مسند الفردوں دیبلی، کنز العمال: ۱۰۲۰۱)

”معدرنیں کم کرو“

گناہ کرنے کے اللہ کے سامنے معدرنیں کرنے سے پرہیز کرو! گناہ ہی نہ کرو! اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہی بچائے۔

### استغفار کا معمول:

تاہم اس کے لیے مشائخ روزانہ جو استغفار بتاتے ہیں کہ سو مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ أَيَّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا تُوبُ مِنَ اللَّهِ مَا تَأْتِيَ مَرَّةً)) (مسلم، کنز العمال: ۱۰۳۰۷)

”لوگو! اپنے رب کے سامنے تو پہ کرو، میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں“  
حالانکہ نبی ﷺ تو بخشے بخشائے ہیں

((لَيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقْدِمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ))

”اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے بچھے گناہ معاف فرمادیے ہیں“

مگر امت کی تعلیم کے لیے اللہ کے حبیب ﷺ میں سو مرتبہ استغفار فرماتے

تھے۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفِرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً))

(مشن ابی اوو، کنز العمال: ۱۰۳۰۸)

کہ اگر بندے نے دن میں ستر مرتبہ گناہ کیا اور ستر مرتبہ معافی مانگی تو اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ معافی تو ما انگ زہا ہے۔ اس لیے ہم استغفار کا معمول بنائیں اور اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔

حدیث پاک میں ہے:

«طُوبِيَ الْمَعْفُونُ وَجَدَهُ فِي صَحِيفَتِهِ أَسْتَغْفَارًا كَثِيرًا»

وُجَدَ يَا وَجَدَ دُوْلُوں پڑھے جاسکتے ہیں، مبارک ہواں کے لیے کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار کو دیکھے گا۔ تو یعنی اگر پورا استغفار نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ ہی کہتے رہیں۔

لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے اللہُمَّ اغْفِرْ لِي کثرت سے کہتے رہنا، اللہ کی رحمت کے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہُمَّ اغْفِرْ لِی کہتا ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمادے۔

توبہ میں چھ چیزیں:

اب توبہ کی تو تفصیلات آپ نے سن لیں۔ حضرت علی بن الحسنؑ کے سامنے ایک

مرتبہ ایک اعرابی نے کہا:

«اللَّهُمَّ اتُّنَّى أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

انہوں نے فرمایا کہ

«رَبَا هَذَا إِنَّ سُرْعَةَ الْأَسْتَغْفَارِ بِالْتَّوْبَةِ تَوْبَةَ الْكَلَّا إِيمَنَ»

”یہ استغفار اور توبہ اتنی جلدی کرنا یا تو جھوٹوں کی توبہ ہے“

«قَالَ الْأَعْوَابِيُّ مَا التَّوْبَةُ»

تو اعرابی نے پوچھا کہ تو بہے کیا؟

تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اسے سمجھایا:

((قَالَ يَعْجِمُهَا سِتَّةُ أَشْيَاءً))

”تو بہیں جچھے چیریں ہوتی ہیں“

﴿۱﴾ عَلَى الْمَاضِيِّ مِنَ الدُّنْوِبِ النَّدَامَةُ

”کہ گناہوں پر جو وقت گزر گیا اس پر ندامت ہو۔“

﴿۲﴾ وَلِلْفَرَائِضِ إِعَادَةُ،

”جو فرض واجب ذمے ہیں اس کو لوٹانا۔“

﴿۳﴾ وَرَدُّ الْمَظَالِمِ

”اور جو ظلم کیے زیادتیاں کی ان کو بخشوana ان کی معافی مانگنا،“

﴿۴﴾ وَاسْتِحْلَالُ الْخُصُومِ

”اور جھکڑوں کو سینا جھکڑے جن کے ساتھ ہوں تو بھی معاف کر دینا معافی مانگ لیتا رفع و فعہ کر دینا اور فرمایا“

﴿۵﴾ وَأَنْ تَعْزِمَ أَنْ لَا تَعُودَ

”اور عزم کرنا کہ اب گناہ پھر نہیں کرنا۔“

﴿۶﴾ وَأَنْ تُذِبِّ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَمَا أَذَبَتْهَا فِي الْمَعَاصِيَةِ

”اب اپنے نفس کو اس طرح نیکی میں مجاهدے میں ڈالو جیسے تم نے معصیت میں اس کو ڈالا اور کوشش کر کے معصیت کی۔“

وَأَنْ تُذِيقَهَا مُرَارَةَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذْقَفَهَا حَلَوةَ الْمَعَاصِيِّ

اور اپنے نفس کو نیکی کا ذائقہ طاعات کی لذت چلکھاؤ جیسے تم نے اسے معاصی کی

لذت سکھائی ہے۔

یہ جو انسان کے اوپر بوجو ہوتا ہے نارا توں کو اٹھنا، دن میں نیکی کرنا، نگاہوں کو پچانا تو اس کو طاعات کی ترشی چکھاؤ، اب ذرا اس کو نیکی کی دشواری چکھاؤ تاکہ اسے پہنچ کر اس طرح توبۃ الصور بنتی ہے۔

دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کے پاس گناہوں کے موقع موجود تھے مگر انہوں نے پھر بھی توبہ کی۔ اس عاجز نے دو واقعات پختے تھے، ایک نوجوان عورت کا اور ایک نوجوان مرد کا کہ انہوں نے کیسے توبہ کی لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں ایک واقعہ کو ڈر اپ کرتا ہوں۔

### ایک بادشاہ کی باندی کی توبہ:

ہشام بن عبد اللہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت باندی تھی جس کا نام غضیف تھا۔ اس کے پاس حسن بھی ہے، مال و متاع بھی ہے، بادشاہ کی محبتیں بھی ہیں۔ آنکھ کے اشارے سے کام ہوتے ہیں، منہ سے لفظ لکھتا ہے پورا ہوتا ہے، اخراجات کرنے کی ہر سہولت موجود ہے، ٹھاٹ کی زندگی گزر رہی تھی۔ جو بادشاہ وقت کی بیوی ہو گی وہ کیا مزے کی زندگی گزارتی ہوگی۔

اس نے ایک مرتبہ جنازہ جاتے دیکھا، اس جنازے کے دیکھنے سے اس کے دل پر چوت پڑی کہ میں ساری عمر یونہی جوان تو نہیں رہوں گی، مس یونہوں نہیں رہوں گی، مجھے بھی موت آئی ہے تو دنیا میں تو یہ محل ملا تو آخرت میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے ہشام بن عبد الملک سے کہا کہ بس مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دو۔ ہشام نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے اس کو کہا کہ اس بات کو منانے کے لیے میں تیرے پاؤں بھی پکڑوں گی کہ تو مجھے عبادت کے لیے

فارغ کر دے۔ ول بدل گیا تھا دل نے سمجھ لیا کہ عرف تو گزر گئی، اب آگے کی تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ رہشام نے اس کو فارغ کر دیا، یہ وہاں سے چلی اور مکہ مکرمہ آئی اور باقی زندگی اس نے حرم شریف کے اندر عبادت کرنے میں گزار دی، حتیٰ کہ وہیں اس کی موت آئی۔

تو ہمارے پہلے لوگوں نے اس لیے توبہ نہیں کی کہ گناہ کرنا مشکل تھا اس لیے توبہ کی کہ حقیقت زندگی سمجھ میں آگئی۔ یہ ہے توبہ باقی چوائیں۔

### ایک شہزادے کی قابلِ رشک توبہ:

اور دوسرا بندہ جس کا واقعہ ذرا تفصیل سے سنانا ہے وہ تھا علی بن مامون۔ مامون بادشاہ گزر رہے، اس کا بیٹا علی تھا، بڑا گلگلام، اتنا خوبصورت کہ لوگ اسے یوسف کی مثال دیتے تھے، وقت کا یوسف۔ اتنا خوبصورت نوجوان اور اس پر یہ کہ بادبھی تھا، اخلاق و آداب اس میں بہت اچھے تھے۔ فصح اللسان بھی تھا، قادر الکلام انسان تھا، بات کرنا بھی جانتا تھا، نرم مزاج تھا اور نہیں مکھ تھا اور باحیا بھی تھا۔ یہ تمام خوبیاں اس ایک نوجوان کے اندر جمیع تھیں۔ باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت تھی کہ بس عاشق تھا۔ کتابوں میں لکھا تھا کہ باپ اپنے بیٹے کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ اللہ نے اس کو جمال بھی دیا اور فضل و کمال بھی دیا۔

گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، بادشاہ کا دستِ خوان لگا، بادشاہ نے غلام کو بھیجا کر جاؤ علی کو بلا لاو۔ شہزادے علی کو بھوک اتنی نہیں تھی تو اس نے پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں اس وقت کھانا تو کھانا نہیں چاہ رہا، بادشاہ نے کہا کہ کھانا کھا چہرہ تو دکھاؤ۔ چنانچہ علی وہاں چلا گیا، رنگ برلنگے اور بڑے لذیذ کھانے پڑے ہوئے تھے۔ مشروبات ہیں، معقولات ہیں، جو اس کے نصیب میں تھا اس نے کھایا۔

جب فارغ ہو کر آیا تو اس نے دریائے دجلہ کے اوپر ایک بالاخانہ بنوایا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میں ذرا اس بالاخانے میں جا کر بیٹھتا ہوں، دریا کے اوپر۔ چنانچہ وہ بالاخانے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نیچے لوگ آتے جاتے تھے، دیکھتے تو پتہ چلتا تھا کہ کون آ رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ وہاں اس نے پانی منگوایا، برف منگوایا جو شبو بھی منگائی اور سُنڈے پانی سے غسل بھی کر رہا ہے اور خوشبو سے بھی محظوظ ہو رہا ہے کہ گرمی کا اس وقت میں یہی علاج تھا۔

انتہے میں ایک مزدور آیا جس کے سر کے اوپر ایک ٹوکری تھی اور اس نے گرمی کے موسم میں اون کی چادر باندھی ہوئی تھی۔ اون کی چادر تو سردیوں میں باندھنا مشکل ہوتی ہے لیکن اس نے گرمیوں کے موسم میں اون کی چادر باندھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اور کپڑا نہیں تھا۔ اور اس کے پاؤں میں گرمی سے بچنے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ اس نے پاؤں کے اوپر کپڑے کے چھوٹے چھوٹے پرزے لپیٹے ہوئے تھے تاکہ میرے پاؤں زمین کی حرارت سے جلیں نہیں۔ اب وہ اسی حال میں سر کے اوپر ٹوکرہ اٹھا کر لایا، اس نے ٹوکرے کو نیچے رکھا اور اس سے تگاری نکالی۔ پتہ چلا کہ یہ مزدور ہے اور کہیں تعمیر کنسٹرکشن کے کام میں حصہ لیتا ہے۔ اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ پاؤں دھوئے اور اس میں سے ایک تھیلا نکالا اور تھیلے کے اندر خشک روٹی کے نکڑے تھے، اس کو دستِ خوان بنا دیا اور نکڑے اس کے اوپر رکھ دیے، پھر اس کے بعد اس نے نمک نکالا، سالم نہیں تھا، وہ خشک روٹی کو نرم کرنے کے لیے پانی میں بھگوتا تھا اور تھوڑا سا نمک لگا کے کھا لیتا تھا۔ اور بڑی لذت سے اس نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد اس نے دعا مانگی اور دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ! تیری میرے اوپر بے انتہاء نعمتیں ہیں، میں تو ان کا

شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جب اس نے یہ لفظ کہے کہ اے اللہ! تیری میرے اوپر بے انتہاء نعمتیں ہیں میں تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، علی کے دل پر چوت پڑی، یہ بات اسے تیر کی طرح جا کے لگی کہ میری زندگی دیکھو اور میں کیا بڑے غصے اور ناخوشی کا اظہار کر رہا ہوں، کہ گرمی ہے، پسند ہے اور اس بندے کو دیکھو کہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے لیٹا، اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی۔ پھر علی نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس مزدور کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب غلام بلانے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ بھی! میرا کیا کام شہزادے سے، میں نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ بھی! اس نے بلا یا ہے، تمہیں آنا پڑے گا، سیدھی طرح نہیں آؤ گے تو زبردستی لے جائیں گے۔ جب اس نے یہ کہا کہ زبردستی لے جائیں گے تو اس نے کہا کہ

﴿عَسَىٰ أَنْ تُكَرَّهُ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

”کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات سے کراہت کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر ڈالی ہو“

تو وہ چل پڑا اس حال میں ٹوکری تھیلا اور سب چیزیں لے کر علی کے پاس آیا۔ علی نے اپنے پاس بلا کے قریب بٹھایا اور پھر پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ پوچھا: مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں ایک میری والدہ ہے جو اپاچ ہے اور ایک میری بہن ہے جو اندھی ہے، اور ان دونوں کا کافیل میں ہوں تو مجھے مزدوری کرنی پڑتی ہے تو اس نے کہا کہ تم ان کے کافیل ہو تو کھانا الگ کیوں کھایا؟ کہ بھائی اگر ماس اپاچ ہے اور بہن اندھی ہے تو تم بیٹھے یہاں کھانا کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ دونوں روزہ دار ہیں، وہ رات کو افطار کریں گی، میں

مزدوری کرتا ہوں، دن میں بھوک لگتی ہے اس لیے میں نے یہاں کھانا کھا لیا۔ اس نے پوچھا اچھا کتنا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں فخر سے لے کر عصر تک تلوق کی مزدوری کرتا ہوں اور عصر سے لے کر فخر تک اپنے مالک الملک کی مزدوری کرتا ہوں۔ تو شہزادہ تیز تھا تو پوچھنے لگا آرام نہیں کرتے؟ تو مزدور نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے پیشی کے خوف نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔

اس کی حالت سننے کے بعد علی اپنے غلام شاکر سے کہا کہ بھی اس مزدور کو پانچ ہزار درہم دے دو۔ اس زمانے میں پانچ ہزار درہم ایسے جیسے پانچ لاکھ روپے ہوتے ہیں، بڑی اماونٹ تھی۔ اس نے انکار کیا کہ جی نہیں میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا۔ علی نے کہا کہ لے لو اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تو علی کہنے لگا: تمہیں اس کی ضرورت نہیں لیکن مجھے ضرورت ہے کہ آپ میرے اس ہدیے کو قبول کر لیں۔ تو مزدور نے کہا کہ مجھے جیسے کی کیا اہمیت کہ مجھے ہدیہ دیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فقط وہ اپنی غربت پر اللہ سے راضی ہی نہیں تھا بلکہ اپنے اندر اس نے عاجزی بھی پیدا کی تھی، اپنی نیکیوں پر نازل اس نہیں تھا۔ علی نے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کرو، جب مزدور نے کہا کہ میرا اللہ کے ہاں کوئی درجہ ہی نہیں کہ میں کوئی دعا کروں، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے کہ دیکھو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیسے نظری کرتے جا رہے ہیں کہ نفس پھولنے نہ پائے۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو علی بھی تیز تھا کہنے لگا کہ اچھا مجھے نصیحت کریں؟ چونکہ نصیحت تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، چاہے وہ گناہ گاری کیوں نہ ہو؟

﴿وَذِكْرُ فِيَنَ الْذِكْرُ أَيْ تَنْفُعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (ذریت: ۵۵)

”نصیحت کیجیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے“

تو اس پر اس مزدور نے کہا کہ علی جب تم نے لمبے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو کس وقت چلتے ہو؟ اس نے کہا کہ صبح سوریے، تو اب مزدور نے کہا کہ آخرت کا سفر بھی تو لمبا سفر ہے کیا اس کے لیے کوئی تیاری شروع کی؟ اللہ اکبر! دیکھو اس ادنیٰ سے مزدور نے کتنے آرام کے ساتھ ایک شہزادے کے سینے کے اوپر تیر چالایا کہ آخرت کا سفر تو سب سے لمبا ہے اور تم جوان ہو گئے ہو اور تم نے اپنی بھی تیاری شروع نہیں کی۔ تو پھر کہا: علی! نافرمانی سے بچنا، موت کو یاد کرتے رہنا۔ دو حرفی بات جس کو کہتے ہیں کہ، ”نافرمانی سے بچنا اور موت کو یاد رکھنا“ یہ باتوں کا لالب لباب ہے۔ علی نے کہا کہ دعا کریں تو اس نے دعائیگی: اے اللہ! علی کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے اور اپنی رضاوائے اعمال کی اس کو توفیق دے دے اور اس کا خاتمہ معافی پر فرمادے۔ کیا خوبصورت دعا ہے! علی نے کہا: جی آپ کی کوئی ضرورت؟ اس نے کہا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ آپ مجھے جلدی فارغ کر دیں، یہی میری ضرورت ہے۔

علی نے اس کو تو بھیج دیا لیکن بہت دیریک وہ روتا رہا، پھر اس نے ہم نشینوں سے کہا: اس مزدور کا حال دیکھو اور ہمارے دستِ خوان کا حال دیکھو۔ اور پھر اس نے اپنے دستِ خوان کے ماکولات اور مشروبات کی تفصیل سنائی کہ ہمارے کیسے لذیذ اور پر تکلف کھانے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا ایک لا سبیر یعنی تھا جو اس کا نوجوان دوست تھا۔ اس کا نام تھا میسب، اس نے کہا کہ میسب! جاؤ ذرا عمر وَاللَّهُ أَعْلَمُ کے حالات زندگی والی فلاں کتاب لا و تو وہ کتاب لے آیا، اس نے پڑھ کر سنایا کہ عمر کا کھانا کیسا تھا؟ کہ ایک دفعہ یہوی نے اچھی چیز پکا کر دے دی تھی تو فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ پوچھئے:

﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَتُكُمْ فِي حَيَاةِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْعِتُمْ بِهَا﴾

(سورۃ الاحقاف: ۲۰)

عمر بن عزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی مشروب دیا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ آنسوؤں کی ملاوٹ کے ساتھ پیا کرتے تھے، مشروب میں آنسو گرتے تھے اور آنسوؤں کی ملاوٹ سے مشروب پیتے تھے کہ میں اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں قیامت پکے دن ان کا جواب کیسے دوں گا؟ پھر انہوں نے عبد اللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کہ موت کے قریب انگور کا خوش کھانے کی دل میں خواہش ہوئی اور منگایا مگر منگوا کر فقیر کو دیکھ کر اس کو دے دیا، کھایا نہیں کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنادیا۔ پھر انہوں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی کتاب منگائی اور ان کے حالات پڑھ کے سنائے کہ انہوں نے کیسے دنیا کو آخرت کے لیے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر انہوں نے سعید بن المسيب کے حالات منگائے، پڑھ کر سنایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش! اللہ میر ارزق گھٹھلی چونے میں رکھ دیتا تاکہ مجھے بار بار بیت الخلا جانے کی حاجت نہ ہوتی۔ یا اللہ! یہ سعید بن المسيب تابعین میں افضل مقام رکھنے والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ کاش اللہ میر ارزق گھٹھلی چونے میں رکھ دیتا کہ گھٹھلی چوس کر میری بھوک اتر جاتی تو مجھے بار بار بیت الخلا نہ جانا پڑتا۔ پھر اس نے مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے حالات سنائے کہ جس نے تھوڑے کوزیاڈہ کے بد لے بیج دیا اور باقی کو پانی کے اوپر تربیح دی اور دنیا سے بھوک کے پیاس سے ننگے سرنگے پاؤں نکل گئے اور کہا کہ نہ زمین نے ان کی چربی کھائی نہ زمین نے ان کا گوشت کھایا۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو اتنی نیکیاں کر گئے کہ اللہ نے ان کے جسموں کو قبر میں سلامت رکھا۔ پھر اس نے اپنا بازو دکھایا تو کہنے والا کہتا ہے کہ چاندی سے ڈھلا ہوا تھا، اس کا بازو اتنا خوبصورت تھا، اور کہنے لگا کہ دیکھو کہ اس گوشت کو قبر کے اندر کیڑے کھائیں گے۔

پھر اس کے بعد اپنے ہم نشینوں سے اس نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے جاتا ہوں اور اپنے غلام شاکر کو کہا کہ تم میرے پیچھے مت آنا، میں سردار کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ سمجھا کہ بادشاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بالا خانے سے نیچے اتر کر کشی لے کرواقف ایک شہر تھا، وہاں چلے گئے اور واقف سے پھر دجلہ چلے گئے اور وہاں جا کر اسی مزدوری کی طرح مزدوری کرنی شروع کر دی، معمولی لباس پہنتا، خشک روٹی ہوتی تھی نمک کے ساتھ کھایتا، دن مزدوری میں گزار دیتا اور رات میں اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ نازک بندہ تھا۔ بھائی بادشاہ نے چپے چپے چھان مارا اس کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ اس نے اتنی لوپروفائل زندگی اختیار کر لی تھی۔ مگر جسم تو اتنا مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، نازک بندہ تھا، نعمت کا پلا ہوا تھا۔ مسجدوں میں یہ رات کو سوتا اور عبادت میں لگا رہتا، یہاں ہو گیا علاج معالجہ تو کیا مگر ایک وقت آیا کہ مسجد کے اندر ہی اس کی سانس نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ ایک بندہ اس کے قریب تھا، اس نے پوچھا کہ اے اجنبی نوجوان! تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میراخط ہے، یہ حاکم وقت کو دے دینا، یہ میری انگوٹھی دکھادیں۔ چنانچہ جو گورنر تھا اس کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو علی کی ہے۔ اب اس نے اپنے ابو مامون کے لیے خط لکھا تھا، جب پتہ چلا تو اس نے بڑے شاہانہ انداز سے بصرہ سے اس کی میت کو وہاں پہنچا دیا۔ مامون نے دیکھا، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا۔ خط کھول کر پڑھا تو خط کے اوپر لکھا ہوا تھا ”سورۃ بُنْرُکی چودہ آیات پڑھ کر عبرت پکڑی جائے“ کہ سورۃ البقر کی چودہ آیات پڑھ کر عبرت پکڑیں اور ان چودہ آیات میں کون سی آیت تھی؟

﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَأْ الْمُرْصَاد﴾

”تیراب تیری گھات میں لگا ہوا ہے“

وہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ آیت دل میں اتر گئی۔ اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے ساری زیب وزیست کو چھوڑ دیا۔ جب فن کیا گیا تو محمد بن سعد ترمذی نے سورۃ نجیر کی چودہ آیات پڑھیں۔ مامون نے بھی معافی مانگی اور بقیہ زندگی اس نے گناہوں سے فتح کر گزارنے کا ارادہ کیا۔

### جنتیوں میں شامل ہونا مشکل نہیں:

تو بھی آج کے دور میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تم گھروں کو چھوڑ دو صرف اتنا کہتے ہیں کہ انہیں نعمتوں میں رہتے ہوئے گناہوں کو کرنا چھوڑ دوا اور کچھ نہیں مانگتے۔ وہ کام کہہ رہے ہیں جو ہو سلتا ہے، جو شریعت میں جائز لذتیں ہیں وہ ضرور حاصل کیجیے، جو ناجائز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ جائز بہت زیادہ ہیں، حرام بہت تھوڑی ہیں۔ آپ دیکھیں جائز مشروبات سینکڑوں حرام مشروبات دوچار۔ جائز گوشت بے شمار، ہزاروں جانور پرندے، حرام گوشت چند جاندار۔ تو جائز لذتوں کو حاصل کر کے ناجائز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، انہیں نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنتیوں میں شامل فرمادیں گے، مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی امید رکھیں، وہ پور دگار گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ! اے اللہ! میرے حسن ظن کو پورا فرمा۔

إِلَهِي أَنْتَ ذُو فَضْلٍ وَ مَنِ  
وَإِنِّي ذُو خَطَايَى فَأَغْفُ عَنِّي  
وَ ظَنِّي فِيْكَ يَا رَبِّي جَمِيلٌ  
فَحَقِيقٌ يَا إِلَهِي حُسْنَ ظَنِّي

بیس سال بعد واپسی:

ایک اور روایت کی گئی کہ

إِنَّ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ شَابٌ عَبَدَ اللَّهَ بِعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ عَصَاهُ عِشْرِينَ سَنَةً

”بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بیس سال اس نے اللہ کی عبادت کی پھر بیس سال نافرمانی میں گزرے۔“

کسی مصیبت میں الجھ گیا، کسی عورت کے چکر میں پھنس گیا، بیس سال اسی غفلت میں گزار دیے۔

ثُمَّ نَظَرَ فِي الْمِرْأَةِ فَوَجَدَ الشِّيْبَ فِي لِحْيَتِهِ قَسَّاءَةَ ذَالِكَ

”پھر آئینہ دیکھا تو اس کو اپنی داڑھی کے اندر سفیدی نظر آگئی۔“

اس کو یہ بات بڑی لگی اچھی نہ لگی کہ میں اس حال میں بوڑھا ہو گیا۔

فَقَالَ إِلَهِيْ أَطْعُتُكَ عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ عَصَيْتُكَ عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنْ

رَجَعْتُ إِلَيْكَ تَقْبِلُنِيْ

”کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار! میں نے میں سال آپ کی فرمانبرداری کی پھر میں سال نافرمانی کی، اب میں اگر آپ کی طرف لوٹوں تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے۔“

فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ وَ لَا يَرَى شَخْصًا

”اس نے پھر کہنے والے ایک شخص کی (غائب سے) آواز سنی فرمایا گیا۔“

أَحَبَبْتَنَا فَأَعْيَّبْنَاكَ فَتَرْكَنَا فَتَرْكَنَاكَ وَعَصَيْتَنَا فَأَمْهَلْنَاكَ وَإِنْ

رَجَعْتُ إِلَيْنَا قَبْلُنَاكَ

”میرے بندے تو نے ہم سے محبت کی ہم نے تم سے محبت کی، تو نے ہمیں چھوڑا ہم نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی ہم نے تجھے مہلت دے دی، اب بھی اگر تولوٹ کے آئے گا میں تجھے قبول فرمالوں گا۔“  
اللہ اکبر!

### امید کا چراغ جلتار ہے:

چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔  
 ((يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْ أَبْنُ أَدَمَ يُذِنِ الدَّنْبَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرُلَهُ ثُمَّ يُذِنِ الدَّنْبَ فَيَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرُلَهُ))  
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”اے آدم کے بیٹے کیا عجیب بات ہے؟ کہ ایک گناہ کر کے استغفار کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں پھر گناہ کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔“

((لَا هُوَ يَتُرُكُ الدَّنْبَ مِنْ مَخَافَتِيْ وَ لَا يَسْتَسْ مِنْ مَغْفِرَتِيْ اُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي اِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ))

”نه تو وہ میرے خوف سے گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری مغفرت سے یہ ما یوس ہوتا ہے۔ اے میرے فرشتو! تم گواہ رہنا، میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرمادیا۔“

### اللہ کی رحمت اتنی وسیع:

چنانچہ حدیث پاک میں آتا کہ ایک نوجوان نبی ﷺ کی خدمت میں آیا۔



جا بر گلشن راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے آ کر کہا:

«وَأَذْنُوبَاهُ وَأَذْنُوبَاهُ وَأَذْنُوبَاهُ فَقَالَ هَذَا الْقَوْلُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً»

”ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہم دو یا تین دفعہ ایے کہا:“

«فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ اللَّهُمَّ

نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اسے فرمایا: اے نوجوان! تو کہہ: اے اللہ!

«اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ»

”اے اللہ! تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت سے مجھے زیادہ امید ہے بہ نسبت اپنے اعمال کے“

فَقَالَهَا ”نوجوان نے یہ کہہ دیا۔“

«لَمَّا قَالَ عُدْ فَعَادَ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعَادَ»

نبی ﷺ نے فرمایا: پھر کہہ دے! تو پھر یہی الفاظ کہے، تیسرا مرتبہ پھر کہا، اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔

تب نبی علیہ السلام نے فرمایا:

«قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»

کھڑے ہو جا! اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرمادیا۔

نبی ﷺ کی زبان فیض ترجمان سے یہ گواہی مل رہی کہ اگر تین مرتبہ ان الفاظ کو کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ تو بھی ہم بھی اس مجلس میں تین مرتبہ اس دعا کو کہہ دیں۔

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ  
اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ  
اور اس کو یاد بھی کر لیں اور اپنی دعاوں میں بھی ما نگیں۔ اور واقعی ہمارے لیے تو  
یہ سو فیصد فٹ دعا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ عمل ہیں نہیں جس کو اپنے فانی کا پتہ ہو تو  
وہ تودل سے کہتا ہے۔

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

### اللہ کی رحمت پر توکل:

اب ایک بات سن لیجئے مگر دل کے کانوں کے ساتھ ایک دفعہ حضرت موسیٰ  
علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہا:

((قَالَ سَيِّدُنَا مُوسَىٰ يَا رَبِّيْ إِذَا سَأَلَكَ سَائِلٌ مَاذَا تَقُولُ لَهُ))

اے اللہ! جب فرمائیں داربندہ تجھے پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟

((قَالَ أَقُولُ لَبِيْكَ))

اللہ فرماتے ہیں کہ میں جواب میں فرماتا ہوں لبیک میں حاضر ہوں۔

فَقَالَ فَزَاهِدٌ پُوچھا: اگر دنیا سے زاہد بندہ وہ آپ سے مانگے؟

فَقَالَ أَقُولُ لَبِيْكُ فرمایا: میں کہتا ہوں لبیک۔

فَقَالَ أَصَائِمُ اگر روزہ دار مانگے تو پھر کیا کہتے ہیں؟

فَقَالَ أَقُولُ لَبِيْكُ میں کہتا ہوں لبیک۔

فَقَالَ فَالْعَاصِي

موسیٰ نے نقطی کی بات پوچھی اے اللہ! اگر گناہ گار آپ سے معافی مانگے تو پھر کیا

کہتے ہیں۔

**قَالَ أَقُولُ لَبِيْكُ لَبِيْكُ لَبِيْكُ**

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔  
کہ میں اپنے گناہ گار بندے کو تین مرتبہ کہتا ہوں لَبِيْكُ لَبِيْكُ لَبِيْكُ  
اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بتائی کہ وجہ کیا ہے؟ عجیب! فرمایا کہ تم نے جن  
نیک بندوں کے تذکرے کیے۔

**كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا هُوَ لَاءٌ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَمَلِهِ وَالْعَاصِي يَتَوَكَّلُ**  
**عَلَى رَحْمَتِي**

”جتنے بندوں کا تذکرہ کیا ان کو اپنے عملوں پر نماز تھا، بھروسہ تھا اور جو گناہ گار  
ہوتا ہے، جب وہ پکارتا ہے تو اس کو میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔“  
وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا إِنَّكَ عَلَى لَوْلَانِي قُلْتُ  
اور میں اس بندے کو ناکام نہیں کرتا جو میری رحمت پر بھروسہ کرے۔ اس لیے  
کہ میں نے یہ قول دے دیا۔

**وَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ**

”جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔“  
تو اعمال تو نیک ہیں نہیں اللہ کی رحمت پر توکل کر کے ہم بھی آج اللہ سے  
ما نگیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ جواب میں فرمائیں لَبِيْكُ لَبِيْكُ لَبِيْكُ یا عبدی میرے  
بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں

مناجات:

اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم گناہوں سے اپنی جان چھڑا کر نہیں والی



ایک نئی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، کسی نے کیا اچھی بات کی؟  
 یا رَبِّ اِنْ عَزُّمَتْ ذُنُوبِيْ كَثِيرَةً  
 ”اے اللہ اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے“  
 فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ  
 ”اور میں تو جانتا ہوں نا کہ تیری درگزرا اور تیری معافی میرے گناہوں سے  
 زیادہ بڑی“  
 إِنْ كَانَ لَا يَرْجُو كَإِلَّا مُحْسِنٌ  
 ”اے اللہ اگر تمھے سے کوئی امید نہیں رکھ سکتا تو نیک بندے کے“  
 فَمَنِ الَّذِي يَرْجُو وَيَدْعُو الْمُجْرِمُ  
 ”اے اللہ پھر کون ہے جس کو پکارے اور جس سے امید رکھے وہ جو مجرم ہے  
 اگر نیک ہی آپ سے مانگ سکتے ہیں تو اللہ مجرم کہاں جائیں گے“  
 مَا لِي إِلَيْكَ وَصِيلَةً إِلَّا الرَّجَاءُ  
 ”اے اللہ! میرا تو امید کے سوا کوئی وصیلہ ہی نہیں بس رحمت کی امید ہے کہ  
 میں بس آپ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔“  
 وَ جَمِيلُ عَفْوِكَ وَ أَنِيْ مُظْلِمٌ“  
 ”اللہ تیری معافی بڑی جیل ہے۔“

اور دوسرا یہ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کلمے کی ہی لاج رکھ لے۔ تو آج  
 اس محفل میں اپنے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے..... آئندہ تھی توبہ کر کے  
 دل کے اندر ارادہ کرتے ہوئے..... یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں گناہوں سے  
 بچا لیجیے! ہماری جان چھڑا لیجیے۔ میرے مولی! آپ سے دوری اور بعد کی زندگی ہم



کب تک گزارتے رہیں گے، آپ کے نافرمانوں کی فہرست میں ہم کب تک شامل رہیں گے، میرے مولیٰ! نیکوں کی صورت اپنا کر ہم کب تک برا نیوں کے مرتکب ہوتے رہیں گے، اس سے پہلے کہ موت کا ڈنکا بجے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمادے۔ آج کی اس محفل میں اللہ! ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نے سن لیا کہ گناہ گار کے کہنے پر آپ تین مرتبہ لبیک فرماتے ہیں تو میرے مولیٰ! آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ نفس اور شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہمیں بچا دیجیے، اور اے اللہ! اپنے فرمانبردار بندوں کی فہرست میں ہمیں بھی شامل فرمادیجیے۔ اور ایک نئی ایمانی اسلامی اور قرآنی زندگی برکرنے کی توفیق عطا فرمادیجیے۔

وَ اِخْرُدْعُولَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾  
 (زمر: ٩)

## علمائے کرام کیلئے دلپذیرہ دعائیات

بيان: محبوب العلماء اصلحاء، زبدۃ السالکین، سراج العالمین  
 حضرت مولانا ناصر ذوالقدر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم  
 تاریخ: 17 جولائی 2010ء، بروزہفتہ ۲ شعبان، ۱۴۳۱ھ  
 مقام: جامع مسجد نسب مجدد المفقر الاسلامی جنگ  
 موقع: خصوصی تربیتی مجالس برائے علماء و طلباء (دوسرا مجلس)

## اقتباس

لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو اللہ نے فرمایا: «كَمَلَ الْعِمَارُ يَحْمِلُ أَسْفَارًا»  
”وہ گدھے کی مانند ہیں جن کے اوپر بوجھ لا دا ہوا ہے۔“  
عمل ضروری ہے۔ اسی عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ مجالس کی  
جاتی ہیں ورنہ علم تو آپ حضرات کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔  
وہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ وہ آگ کیسے لگے؟ ان مجالس سے وہ تیل لگتی  
ہے، آگ لگ جاتی ہے، اندر بیقراری رہتی ہے۔ علم وہ نور ہے جس  
کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین ٹیکن آتا۔ علم انسان  
کو بیقرار رکھتا ہے جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کر لے۔ اس لیے  
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علمائے یہود کے بارے میں فرمایا:  
«لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» ”اگر وہ جانتے“

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مذکور)

## علمائے کرام کے لیے دلپذیر ہدایات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْتَ اَمَّا بَعْدُ:  
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 ۝ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا  
 يَتَدَبَّرُ كُلُّ اُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (زمر: ۴)  
 سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝  
 الٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

قرآن پاک میں علم کی اہمیت:

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

۝ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (زمر: ۹)  
 ”اے میرے محبوب ملکیزم آپ فرمادیجیے کہ کیا علم والے اور بے علم برادر ہو  
 سکتے ہیں،“

اس آئیت مبارکہ میں تین الفاظ قابل غور ہیں۔

پہلا لفظ ہے قُل۔ عام طور پر یہ دستور ہوتا ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ حاکم شہر کی طرف سے کوئی اعلان ہو تو ایک آدمی با قاعدہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حاکم شہر کی طرف سے اعلان ہے۔

”بادب بالا حظہ ہوشیار“ اس طرح کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو شاہی اعلان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت کسی خاص بات کا اعلان کروانا چاہتے ہیں تو اپنے حبیب ملکیت کو حکم فرماتے ہیں کہ ”فُلُ“ فرمادیجیے! تو محبوب ملکیت کا یہ الفاظ ادا کرنا اس کی چیز کی اہمیت کی پکی دلیل ہوتا ہے کہ یہ شاہی فرمان ہے۔ یہ حاکم اعلیٰ کا حکم ہے، اس بات کو توجہ سے سننا۔ تو ”فُلُ“ کا لفظ متوجہ کرتا ہے۔

دوسرالفظ ہے ”ھلُ“۔ یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ علامہ تقیازنی نے لکھا ہے کہ استفہام انکاری بعض اوقات زجر اور تو نخ کے لیے ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ گویا جو عالم اور جاہل کو ہمارے سمجھے گا اس کے اوپر ناراضگی کا انہصار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں سمجھنیں لگ رہی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔

پھر آگے تیرالفظ ہے یَعْلَمُونَ (علم والے)۔ مگر یہاں اس کا مفہوم ذکر نہیں کیا گیا کہ کون سے علم والے۔ وہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کوئی آدمی ٹوپی کا تذکرہ کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ سر کے پہنچ کی چیز ہے اور کوئی جوتے کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ پاؤں کے پہنچ کی چیز ہے۔ تو ٹوپی اور جوتے کے الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ استعمال کیا ہے؟ اسی طرح علم کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد علم دین ہے۔ یہ واضح بات ہے جو دنیا کا علم ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کو علم ہی نہیں کہا گیا فرمایا:

﴿وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (روم: ۷)

”لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جانتے ہیں مگر فقط دنیا کی ظاہری زندگی کو“ تو یہاں علم سے مراد علم دین ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت علم دین عطا

فرمائیں گے وہ عالم اور ایک عام جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندر ہیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ”العلم نور“ علم روشنی ہے اور جہالت اندر ہیرا ہے تو یہ ایک دوسرے کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم دین کی اہمیت پر یہ آیت مبارکہ ایک پکی دلیل ہے۔

### احادیث میں طلب علم کی اہمیت:

◎ اور حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ»

”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔“

اس آیت مبارکہ میں سیکھنے کو مقدم کیا گیا سکھانے کے اوپر، سیکھنے کا تذکرہ پہلے سکھانے کا بعد میں۔ اس کی وجہات ہیں۔

ایک تو یہ کہ ترتیب ہی یہی ہوتی ہے کہ چیز پہلے سیکھی جاتی ہے اور بعد میں سکھائی جاتی ہے، لہذا ترتیب کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔

اور دوسرے علمی نکتہ اس میں یہ ہے کہ ”خَيْرُكُمْ“ لہذا خیریت کے اندر متعلم معلم سے بڑھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معلم کو پڑھانے کے اوپر تنخواہ ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ عوض ملتا ہے اور طالب علم کو پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ طالب علم تو مجاہدے کرتا ہے تکلیفیں اٹھاتا ہے۔

اور تیسرا بات کہ پڑھانے والے کو سفر نہیں کرنا پڑتا، پڑھنے والے کو سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی اس استاد کے پاس کبھی اس استاد کے پاس۔ کبھی اس جامعہ میں جاؤ، کبھی اُس جامعہ میں جاؤ۔ استاد تو وہاں موجود ہوتے ہیں کیونکہ سفر کی تکالیف طالب علم کے ساتھ زیادہ ہیں اس لیے اللہ کی نظر میں وہ خیر میں بڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے اس

کاتہ کرہ پہلے کیا گیا۔

⦿ تو علم اللہ رب العزت کے ہاں برا مقام رکھتا ہے مگر اس علم کو ساری زندگی حاصل کرنے پڑتا ہے، نبی ﷺ نے بتادیا:

«اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّهِدِ»

”کہ تم پنجموڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو،  
یعنی ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھو۔

⦿ ایسا وقت نہیں آتا کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں نے علم میں کمال حاصل کر لیا۔  
نہیں! جب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے جبیب ﷺ کو فرمایا:

«قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا»

”آپ فرمادیجیے کہ اے اللہ! مجھے علم میں اور بڑھادیجیے۔“

زیادہ علم عطا فرمائیے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی کوئی اختیاء نہیں، ساری زندگی انسان علم میں بڑھتا رہتا ہے، یہ زیادت علم ہر طالب علم کا شوق ہونا چاہیے کہ میرا یہ علم بڑھتا رہے۔

⦿ اور اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے۔ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْهُوْ مَانَ لَا يَشْبُعُانَ»

”دوبھو کے ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔“

ایک طالب علم (علم کا طلب کرنے والا) اور دوسرا طالب الدینیا اور (دنیا کا طلب کرنے والا) دونوں کے پیٹ نہیں بھرتے، دنیا کا جتنا مال کسی کے پاس آئے اس کو اور کی تمنا رہتی ہے اور یہی حال علم کا کہ جتنا بھی انسان سمجھے لے اور کی تمنا۔

## حضرت مولانا انور شاہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی حرص:

حضرت مولانا انور شاہ کشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرض وفات میں جبکہ ڈاکٹروں نے ان کو اٹھ کر بیٹھنے سے بھی منع کر دیا تھا، اس وقت میں تکلیف کے باوجود دیے کی روشنی میں حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد کہنے لگے کہ حضرت اس تکلیف کے عالم میں جبکہ ڈاکٹروں نے منع بھی کر دیا کون سا ایسا درس ہے جو دینا ہے اور جس کی تیاری ہو رہی ہے، جس کے لیے مطالعہ ہو رہا ہے؟ اور کون سا ایسا نکلتے ہے جو پک نہیں رہا؟ ہم شاگرد کس لیے ہیں؟ آپ ہمیں حکم دیجیے، فرمائیے کہ ہم اس چیز کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں فرمایا کہ کوئی نکتہ تو خاص ایسا نہیں کہ جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں مگر یہ بتاؤں کہ اس علم کی پیاس کا کیا کروں جو بھنے والی ہی نہیں۔ تو علم ایسی پیاس ہے جو ساری زندگی نہیں بھنتی، جس کو چسکا پڑ جائے جس کو لندت مل جائے، اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔

عام طور پر تو حرص منع ہے مگر وہ منع ہے اپنے مقصود کی وجہ سے۔ اگر دنیا مقصود ہے تو حرص منع اور اگر علم مقصود ہے تو اب حرص جائز ہو گئی، کیونکہ مقصود اچھا ہے، تو دو حریص ایسے ہیں ان کا دل نہیں بھرتا، ان میں ایک علم کا حریص اس میں اللہ تعالیٰ بندے کے تنافس کو دیکھتے ہیں۔

﴿وَفِي ذَلِكَ فُلْمَتَنَافِسُ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (المطففين: ۲۶)

## علم بڑھانے کے دوراتے:

اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب علم بڑھنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے

ہیں تو یہ علم بڑھتا کیسے ہے؟ علم و طرح سے بڑھتا ہے۔

(۱)..... ایک کثرت مطالعہ سے جتنا مطالعہ کی کثرت ہوگی اتنا علم بڑھے گا۔

(۲)..... اور دوسرا بڑھتا ہے کثرت عمل صالح کی وجہ سے۔

کثرت مطالعہ سے اور نیکی زیادہ کرنے کی وجہ سے علم بڑھتا ہے مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ جو کثرت مطالعہ کی وجہ سے علم بڑھتا ہے، اس میں تحریز زیادہ ہوتا ہے۔ تحریر کا لفظ بحر سے ہے۔ سمندر کو آپ نے دیکھا ہو گا کہ سمندر کی چوڑائی تو ہزاروں کلومیٹر کے حساب سے اور گہرائی دس کلومیٹر کے حساب سے، تو چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور گہرائی تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے جو علم کثرت مطالعہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس کا پھیلاو زیادہ ہوتا ہے، عمق تھوڑا ہوتا ہے۔

اور ایک علم کثرت اعمالی صالحہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس علم میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اس کو تفہیق کہتے ہیں تو تفہیق کے اندر گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ کے علم میں پھیلاو نہیں تھا۔

﴿فَاتَّخُذُوا الْعِلْمَ﴾

”وہ علم میں گہرائی رکھنے والے تھے“

تو علم لئے کے دوراستے، ایک راستہ کثرت مطالعہ سے مگر اس سے تحریر علمی بڑھتی ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک عمل صالحہ کی وجہ سے ملتا ہے، اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے بندے کو نشانے خداوندی کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟

تفہیق فی الدین کیسے ملتا ہے؟

کسی نے حضرت گنگوہی علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ حضرت! ایک عالم جب کوئی

معرفت کی بات کرتا ہے تو کبھی ٹھیک ہوتی ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، حاجی صاحب جتنی باتیں کرتے ہیں پکی کرتے ہیں۔ تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ دیکھو! ہمارے ذہنوں میں مبادیات پہلے آتی ہیں اور ان سے ہم نتائج نکالتے ہیں، کبھی نتیجہ بالکل ٹھیک کبھی ٹھیک کے قریب۔ حاجی صاحب کے دل میں نتائج پہلے وارد ہوتے ہیں لہذا نتائج کے دلائل کا ڈھونڈنا وہ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے ان کی بات پکی ہوتی ہے۔

اس کو کہتے ہیں ”تفہم فی الدین“ اس لیے فقہائے کرام وہ ہستیاں تھیں جو مزاج شریعت کو جانتی تھیں، ان کی طبیعتیں اللہ نے ایسی بنائی تھیں کہ وہ مزاج شریعت سے واقف تھیں۔ لہذا ان کے لیے احادیث سے مسائل کا جواب استنباط کرنا بہت آسان ہوتا تھا، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک میں علم کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے میں گھرائی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ ہوں کہ وسعت مطالعہ بھی ہوا اور ساتھ کثرت عمل صالح بھی ہوں تو پھر اللہ رب العزت دونوں نعمتیں عطا فرمادیتے ہیں۔

## حسن طلب:

لیکن یہ دونوں نعمتیں حسن طلب سے بڑھتی ہیں۔ جتنی طلب ہوگی اتنا علم زیادہ بڑھے گا، آپ نے اس فتح کو دیکھا؟ اس کو پانی میں ڈالیں تو یہ پانی کو چوس لیتا ہے، اس کی نس نس میں پانی سما جاتا ہے۔ تو طالب علم کو اس فتح کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں سے سارے علم کو چوس لے۔ جس بندے کو پیاس جتنی زیادہ ہوگی، اس کو پانی کی تلاش اتنی زیادہ ہوگی۔ دستور کی بات ہے نا، علم کی پیاس جتنی زیادہ تو علم کی طلب بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو طالب علم وہی ہو گا جو وقت ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ادھر ادھر غیر ضروری کاموں میں نہیں الجھے گا، علم پر توجہ مرکوز رکھے

گا۔ علم جزوی کام نہیں ہے کل وقتی کام ہے۔ امام ابو یوسف رض فرماتے تھے:

**الْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتَّىٰ تُعْطِيْهُ كُلَّكَ**

”علم تجھے اپنا بعض حصہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تو اپنا کل حصہ اس کی طرف متوجہ نہیں کر دے گا۔“

### علم کی لگن اور مگن:

اس لیے علم حاصل کرنے کی دھن لگی ہوئی ہو، ایک لگن ہو اور پھر انسان اس کام میں مگن ہو۔ تو یہ وچیزیں مل جائیں لگن اور مگن تو علم حاصل ہو جاتا ہے۔

مگن کا حال دیکھو! امام ابو یوسف رض کا بیٹا فوت ہو گیا تو بیٹے کو نہلا دیا، جنازے میں ذرا دریتھی تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو، سب کو کہہ دیا کہ جی میرے بیٹے کا جنازہ پڑھ لیں۔ کیونکہ یہ وقت ہے جب میں امام اعظم رض کی مجلس علمی میں جاتا ہوں، میں اس وقت کو قضا نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے رشتہ داروں نے جنازہ پڑھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر علمی مجلس میں آئے اور امام صاحب کی مجلس کو قضا نہ ہونے دیا۔

امام مالک رض کے ایک شاگرد تھے، اندرس کے رہنے والے تھے۔ نام تھی بن سجی اندری تھا۔ اللہ کی شان کر کوئی آدمی مدینہ میں ایک ہاتھی لے آیا، کیونکہ اس علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کے لیے یہ نئی چیز تھی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے نکل آئے۔ امام مالک رض کے سارے شاگرد نکلے، تھی مسجد میں ہی رہے۔ امام مالک رض نے فرمایا کہ سجی تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ حضرت امیں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں یہاں آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ امام مالک رض اتنے خوش ہوئے کہ ان کا نام عاقل اندری رکھ دیا۔ توجہ طلب ایسی ہو تو پھر زیادت علم بھی

نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت علم بھی عطا فرمادیتے ہیں۔  
 امام محمد علیؑ نے امام اعظم علیؑ کی مجالس سے کتنا علم حاصل کیا؟ ایک کتاب  
 انہوں نے لکھی، سیر کبیر اس کتاب کو ایک فرنگی نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ  
 ((هذا مُحَمَّدٌ كُمُ الصَّغِيرُ فَكَيْفَ يَكُونُ مُحَمَّدٌ كُمُ الْكَبِيرُ))  
 ”چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو ان کے بڑے محمد کا کیا حال ہو گا؟“

### محنت شرط ہے:

اللہ تعالیٰ پھر بندے کو ایسا علم عطا فرمادیتے ہیں۔ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔

بِقَدْرِ الْكِدْدِ تَعْتَسِبُ الْمُعَالَىُ  
 وَ مَنْ طَلَبَ الْعُلَىٰ سَهَرَ اللَّيَالِيُ  
 تَيَرُومُ الْعِزَّةِ ثُمَّ تَنَامُ لَيَلًا  
 يَغُوْضُ الْبُحْرَ مِنْ طَلَبِ الْلَّلَائِيُ

”تو ارادہ کرتا ہے بلندی پانے کا اور ساری رات سویا رہتا ہے، جو موتیوں کو  
 ڈھونڈنے والا ہوتا ہے اسے سمندر میں غوط لگانا پڑتا ہے۔“

تو محنت سے اللہ رب العزت یہ محنت عطا فرمادیتے ہیں۔ یہاں ایک سنتے کی  
 بات ہے کہ علم غنی کی صفت ہے۔ اس کے اپنے اندر بھی غنا ہے لہذا جو علم کو حاصل کرنا  
 چاہے اسے جھکنا پڑے گا، اسے طلب ظاہر کرنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ  
 ﴿أَنَّلِّي مُكْمُوْهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْن﴾

”کیا تمہارے اوپر لازم کردیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو،“  
 ہم ہدایت تمہارے ساتھ چپکا دیں، تمہارے دل کو علم سے بھردیں اور تمہیں اس  
 کی پرواہی نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم کیلئے جو تیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔

## توفیق علم کے لیے وچیزیں

تاہم دو باتیں اہم ہیں، ان کا خیال رکھا جائے تو علم میں بہت جلدی اضافہ ہوتا ہے۔

### ♦ ادب

ایک کو کہتے ہیں ادب۔ یہ جو ادب ہے اور نیاز مندی، اس سے توفیق مل جاتی ہے۔ تو جو بندہ چاہے کہ مجھے کثرت مطالعہ کی اور عمل کی توفیق ملے، تو وہ نیاز مندی کو اپنائے۔ اس پر اللہ رب العزت اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔

حضرت مفتی کفایت اللہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے طلباء سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ! حضرت کشمیری رض علامہ کشمیری کیسے بنے؟ تو جن طلباء کو تفسیر کے ساتھ ذوق تھا انہوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے مفسر تھے۔ جن کو حدیث پاک کے ساتھ ذوق تھا انہوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے محدث تھے، اور جن کوشاعری کے ساتھ دلچسپی تھی انہوں نے کہا کہ جی ان کا کلام بڑا اعلیٰ ہے، عربی میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ تو اس پر حضرت مفتی کفایت اللہ رض نے فرمایا کہ کسی نے یہ سوال خود علامہ کشمیری رض سے پوچھا کہ حضرت! آپ علامہ کشمیری رض کیسے بنے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں ادب کی وجہ سے بنا۔ میں اساتذہ کا بھی ادب کرتا تھا، کتب کا بھی ادب کرتا تھا۔ پوچھا کہ کیسے؟ فرمائے گئے کہ میں نے کبھی بے وضو علمی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں اتنا ادب کرتا تھا کہ بخاری شریف کا جب مطالعہ کرتا تھا اور کرتے کرتے جب حاشیہ دیکھنا ہوتا تو کتاب کو اپنے تالیع نہیں کرتا تھا، خود کتاب کے تالیع ہوتا تھا، اندر کر دوسرا طرف آکر پھر حاشیہ پڑھتا تھا۔ اور میں نے کبھی قرآن مجید کے اوپر حدیث کی

کتاب نہیں رکھی، حدیث کے اور فقہ کی کتاب نہیں رکھی اور فقہ کے اور تاریخ کی کتاب نہیں رکھی۔ میں کتابوں کے رکھنے میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھتا تھا۔ جب اتنا ادب ہو گا تو یقینی بات ہے دل منور ہو گا۔

تو ادب سے توفیق ملتی ہے اور بے ادبی سے توفیق چھوٹ جاتی ہے۔ کتنے طلباء یہی تھے جو اساتذہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے مقبول ہو گئے، حالانکہ ان کی علمی استعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔

### خدمت نے بخت لگایا:

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طالب علم تھا، ملٹان شجاع آباد سے ذرا آگے ایک قصبه ہے، پونڈ اس کا نام ہے، یہ وہاں کا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بخاری شریف پڑھتا تھا۔ شیخ سے اتنی محبت تھی کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو وہ شیخ الحدیث صاحب کے دروازے سے لے کر دارالحدیث کے دروازے تک جو راستہ تھا اس کی صفائی کرتا تھا کہ میرے شیخ نے یہاں سے چل کر آتا ہے۔ اور کبھی محبت میں جوش پڑھتا تو اپنے عمامہ کے کپڑے سے اسکی صفائی کرتا تھا۔ اللہ کی شان! ایک دن وہ صفائی کر رہا تھا، تب تہجد کا وقت تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے باہر جھائکا اور دیکھ لیا۔ پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے بتانے پر اصل بات کا پتہ چلا تو استاد کے دل سے دعا لٹکی۔ استاد کی دعا نے بخت لگا دیا۔ غلام رسول اس نے کام تھا، اس کو اللہ رب العزت نے اتنا علم دیا کہ یہ وہاں سے لوٹ کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے گاؤں پونڈ کے اندر ہی ایک مدرسہ بنادیا۔ تو اب گاؤں کے اندر سہولیات تو نہیں ہوتیں۔ وہ گاؤں تھا بھی کیکی سڑک سے تیس کلومیٹر اندر، چنانچہ طلباء کو اپنے سر پر بستر اٹھا کر تیس کلومیٹر پیڈل چلانا پڑتا تھا۔ آنے اور جانے کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی، تیس

کو میر کا سفر کر کے تب گاڑی ملتی تھی۔ اس گاؤں میں بھی ان کے پاس تین سو طلبہ پڑھتے تھے۔

آج کہتے ہیں کہ جی سہولیات نہ ہوں تو طلبہ نہیں آتے۔ طلبہ سہولیات کے طالب نہیں ہوتے وہ علم کے طالب ہوتے ہیں، جہاں انہیں علم ملتا ہے وہ اس کی طلب میں پہنچ جاتے ہیں۔ مگر مولا نا غلام رسول پونٹوی محدثؒ کو اللہ نے علمی مقام کتنا دیا کہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے، حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری محدثؒ نے ملک کے نامور علماء اور شیوخ الحدیث کو مدعو کیا۔ جب ملک کے اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو اس وقت حضرت جالندھری محدثؒ نے اعلان کیا کہ مس الخاتم حضرت مولا نا غلام رسول پونٹوی شیخ کے اوپر تشریف لا دیں۔ ان اکابر کی موجودگی میں مس الخاتم کا فقط کہا گیا۔ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا تھا کہ خود بتایا کرتے تھے کہ اگر شرح جامی کو پوری دنیا سے فن کر دیا جائے ایک بھی سخن باقی نہ پچے اور کوئی طالب علم میرے پاس آئے تو میں اپنے حافظے سے شرح جامی دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ یہ استاد کی دعا تھی۔

چنانچہ تین نوجوان صحابہ نبی ﷺ کی خدمت میں پیش پیش رہتے تھے، ایک وسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ کے لیے تہجد کے وقت میں نام لے لے کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کیا گلی کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو علم میں نمایاں مقام عطا فرمایا۔ تینوں کا نام عبد اللہ، یہ عجیب عباد اللہ کہ ان میں سے ایک۔

عبد اللہ بن عباس امام المفسرین بنے۔

ایک عبد اللہ بن عمر امام الحدیث بنے۔

ایک عبد اللہ بن مسعود امام الفقہاء بنے۔

## نکتے کی بات:

ہذا نکتے کی بات ہے کہ قابل بننے کی کوشش کم کرو، مقبول بننے کی کوشش زیادہ کرو، استاد کی نظر میں مقبول ہو گئے تو اللہ تعالیٰ علم سے سینے کو بھر دیں گے۔  
خود کے پاس عقل کے سوا کچھ اور نہیں  
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں  
دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں  
تو کسی کی نگاہ میں رہنے کی توفیق ہو جائے، دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے؟  
اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اس علم کے اندر ترقع ہے، بلندی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ  
نے انسان کے جسم کے اندر مختلف اعضا بنائے لیکن ان میں علم کے اعضا کو اونچا مقام  
عطای کیا۔

..... دماغ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے اوپری جگہ پر۔

..... آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ چہرے پر۔

..... کان چہرے پر۔

..... زبان چہرے پر۔

یہ سب اعضاے علم ہیں۔ اب علم کے اعضا کو اللہ نے اونچا مقام دیا اور وہ اعضا  
ہاتھ پاؤں معدہ جو مزدور قسم کے اعضا ہیں ان کو نیچے کا مقام دیا۔ علم کے اندر تعنیٰ  
ہے، بلندی ہے مگر حاصل کرنے کے لیے جھکتا پڑتا ہے۔ جتنا جھکے گا تو اسح انتیار  
کرے گا اتنا علم زیادہ ملے گا۔

امام ابو یوسف رض کا ایک عجیب قول ہے، فرمایا:

الْعِلْمُ عِزٌّ لَا ذِلٌّ فِيهِ يَحْصُلُ بِذِلٍّ لَا عِزٌّ فِيهِ

”علم میں ایسی عزت ہے کہ جس میں ذلت نہیں اور یہ حاصل ہوتا ہے پستی سے کہ جس میں عزت نہیں“

علم پست ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی، جھکنا پڑتا ہے۔

## ۲) تقوی

چنانچہ ایک تو علم بڑھتا ہے ادب سے اور دوسرا بڑھتا ہے تقوی سے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾

”تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں علم پڑھائے گا“ یہ معرفت کا علم اللہ رب العزت سینوں میں اتنا رہتے ہیں۔ اور یہاں فرق پڑتا ہے ہم میں اور ہمارے اکابر کی زندگی میں کہ ہماری زندگی عام لوگوں والی اور اکابر کی زندگیوں میں تقوی ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ رب العزت خاص علم عطا فرماتا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رض فرماتے ہیں کہ احوال میراث اعمال ہیں۔ عمل ہو گا تو احوال بھی ہوں گے، معارف بھی ہوں گے۔

علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے:

چنانچہ اعمال موقوف علی العلم ہیں اور علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے۔  
تحصیل علم اور استعمال علم

آج طلب تھی ملک علم کی محنت تو کر لیتے ہیں، استعمال علم کی محنت نہیں کرتے اور یہ مجالس اس لیے ہیں کہ ہمارے دل میں استعمال علم کا شوق پیدا ہو جائے کہ جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہم اس کو استعمال کرنے بھی لگ جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا:

((كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهُدَىٰ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ))

”کہ جیسے وہ علم سیکھتے تھے ایسے ہدایت بھی سیکھتے تھے“

تو معلوم ہوا کہ تحصیل علم ایک محنت ہے اور استعمال علم الگ محنت ہے۔ یہ استعمال علم کیسے حاصل ہو، اس کا نام تربیت ہے اور اسی کے لیے یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے علم پر عمل کرنے کا، اپنے علم کو استعمال کرنے کا ایک شوق، ایک محبت، ایک جذبہ اور ایک لولہ پیدا ہو جائے۔

## باطنی علوم کے حامل:

چنانچہ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض ایسے اکابر کو دیکھا کہ ظاہری علم ان کے پاس نہیں تھا اور ان سے بڑے بڑے اکابر علم سیکھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے جمال علم ان سے علم سیکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ حضرت نانو توی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، اس کا نام تھا امیر شاہ خان، یہ حضرت نانو توی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے مگر طبیعت نیکی والی تھی، تقویٰ تھا، اس وجہ سے ان کی زبان سے معارف نکلتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کبھی عقائد کے مسئلے میں پھنس جاتے تھے کیونکہ عقائد کے معاملے میں بہت گہرا ایسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرماتے چلو امیر شاہ خان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس آ کر حضرت بات چھیڑ دیتے تھے اور ان کی زبان سے کوئی لفظ لکھتا تھا جس سے علامہ اور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو

روشنی مل جاتی تھی۔

چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم العلوم والبرکۃ، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ لوگ تو حاجی صاحب ( حاجی امداد اللہ مہاجر گلی) سے بیعت ہونے ان کے تقویٰ کی وجہ سے اور میں بیعت ہوا ان کے علم کی وجہ سے۔ طلبہ حیران ہوئے کہ حضرت نے کیا بات کر دی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اودہ کیسے؟ فرمایا کہ حاجی صاحب اگرچہ کافیہ تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے مگر استعداد ایسی تھی کہ مولوی محمد جالندھری صاحب مغلکوہ شریف کا درس دیتے تھے اور حضرت ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی محمد جالندھری کو مشنوی شریف میں ایک شعر کے معانی کرنے میں اختلاف رائے ہوا تو مولوی محمد صاحب نے فرمایا کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ تھیک ہے۔ حضرت حاجی صاحب کی طبیعت بحث والی نہیں تھی، خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے مشنوی کا درس خود دینا شروع کیا تو اس شعر تک پہنچ کر اس کا وہی ترجمہ کیا جو حاجی صاحب کہہ رہے تھے۔ حاجی صاحب کمرے میں تھے باہر لگئے اور مولانا محمد صاحب کو مسکرا کر کہا کہ بات تو وہی کی جو میں نے کی تھی۔ پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ اس شعر کے مفہوم کو سمجھ سمجھے تھے، مجھے اب سمجھے میں بات آئی۔

علماء کا بیدیو بند کے جو شیخ ہیں، حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ یہ استاد الکل کہلاتے ہیں (سب کے استاد)۔ یہ اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک عام طالب علم تھے، اساتذہ سمجھتے تھے یہ بہت غنی ہے، لہذا صرف دخوں میں ان کا دامغ نہیں چلتا تھا تو استاد بھگا دیتے۔ آج اس کے پاس پڑھتے، تو کل کسی اور کے پاس پڑھنے جاتے۔ کوئی پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسا

وقت آیا کہ مایوسی طاری ہونے لگی کہ مجھے کوئی استاد پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی غم اور مایوسی کے عالم میں یہ حضرت شاہ عبدالعزیز عویض اللہ علیہ السلام کے پاس چلے گئے ان کو جا کر کہا کہ حضرت! میرا یہ حال ہے کہ میں پڑھنا تو چاہتا ہوں مجھے کوئی استاد پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب نے فرمایا: اچھا مکمل میرے پاس آتا۔ شاہ صاحب نے بچے کے اندر طلب دیکھی تورات تہجد میں دعا بھی کی اور اگلے دن ان کو صرف وجوہ کا سبق پڑھایا اور ساتھ تقویٰ کی تلقین بھی فرمائی۔ اس ایک درس کے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں میں جہاں بھی گیا میں اپنے استاد کی آنکھ کا تارہ بن کر رہا۔ پھر اللہ نے اتنا علم دیا کہ حضرت ناوتوی عویض اللہ علیہ السلام اور حضرت گنگوہی عویض اللہ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کیا۔

### جاننے اور ماننے میں فرق:

چنانچہ جتنا طالب علم میں تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا علم میں گہرائی، عمق زیادہ ہو گا۔ اب ہم جانتے تو ہوں عمل نہ کرتے ہوں تو ہم نے علم سے فائدہ تو نہ اٹھایا۔ تو اس لیے تقویٰ اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کہنے والے نے کہا:

**فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتَلْكَ مُصِيبَةً**

”اگر تو نہیں جانتا تو یہ ایک مصیبت ہے“

**وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ**

”اگر تو جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔“

آج ہم اس مصیبت میں گرفوار ہیں۔ آج جس سے بات کرو! وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ بھی جانتے تو ہیں مگر جاننے پر عمل کتنا کرتے ہیں اور عجیب بات کہ

قیامت کے دن سوال بھی یہی ہو گا کہ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ چنانچہ بہت سارے طلباء کو دیکھا بڑی تحقیق ہوتی ہے۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾

بھی ”قد“ تحقیق کا ہے اور ” AFLAH“ ماضی کا صیغہ، ”من“ اس میں موصولہ اور پھر تز کی فعل ماضی، اب آپس میں جوڑتے ہیں اسم موصول کو ملا کر اور نتیجہ کیا نکالنے ہیں کہ جی جملہ فعلیہ خبر یہ ہوا۔ بھی جملہ فعلیہ کی تحقیق تو آپ نے کر لی مگر یہ سوچا کہ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ میں، اللہ کی منشا کیا ہے؟ ہمیں حاصل کیا کرنا چاہیے؟ ادھر دھیان نہیں ہوتا۔ تو فلاح کو اللہ نے تز کیہ کے ساتھ نصیحتی کیا ہے، جب تک ہم اپنی تز کی نہیں کریں گے فلاح نہیں پائیں گے۔

### علم فرقان عطا کرتا ہے:

تو علم ایک روشنی ہے جو کھرے اور کھوئے کو جدا کر دیتی ہے۔ ایک نکتے کی بات ہے۔ جب صفات مختلط ہو جائیں، خلط ملط ہو جائیں تو علم ان کے درمیان Line of demarkation (خطِ امتیاز) کھینچ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر: ایک ہے سخاوت اور ایک ہے اسراف۔ اب یہ مختلف صفات ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ہم سخاوت کر رہے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں۔ اسراف اور سخاوت کے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ علم کرے گا۔ اسی طرح پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسامحت ہے یا ماداہست ہے۔ مسامحت کہتے ہیں تاریخ کو، چشم پوشی کر دینا اور ماداہست کہتے ہیں بے غیرتی کا اظہار کرنا، پرواہی نہ کرنا۔ شجاعت اور سخاوت میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق کون کرتا ہے؟ علم کرتا ہے۔ اس لیے علم اپنائی ضروری ہے۔

## دین کا علم محفوظ ہے

### مراد الہی محفوظ:

اور اللہ کی شان و یکھیں کہ دین اسلام میں علم محفوظ ہے۔ یہاں پر ایک نکتے کی بات سینے کہ جب وحی اترتی تھی تو نبی ﷺ پر غنودگی کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ گویا ظاہری اعضا کو معطل کر دیا جاتا تھا تو ظاہری اعضا کو معطل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ مراد حق اور فیض مراد حق کے اندر اختلاط نہ ہو پائے۔ چنانچہ حضرت ناولتوی ﷺ کے سامنے کسی نے کہا کہ جی بعض لوگ نبی ﷺ کی زیارت نیند میں کرتے ہیں اور بعض لوگ نبی ﷺ کی زیارت مشاہدے میں جائتے ہوئے کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی افضل تو نیند میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت! افضل نیند میں کیسے افضل ہے تو آپ نے فرمایا: جو مشاہدے میں کرے تو اس کے اندر حواس کا عصر شامل ہو سکتا ہے اور نیند میں حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ لہذا نیند کے اندر زیارت افضل ہے پہبخت مشاہدے کے۔ اسی طرح وحی کے وقت ظاہری اعضا کو معطل کر دیا گیا تاکہ مراد حق میں کسی کی ذاتی مراد شامل نہ ہو سکے تو علم کو موقوف کر دیا گیا۔

### قرآن محفوظ:

یہ جو قرآن ملا تو اس کی حفاظت کے لیے دیکھو! حافظین کی ایک جماعت بنادی، سیکورٹی کی ایک جماعت اللہ نے بنادی۔

..... یہ قراحتات حروف قرآن کے محافظ۔

..... یہ علماء حفظ موالی قرآن کے محافظ۔

..... اور یہ مشائخ حفظات یہ معارف قرآن کے محافظ۔

شیم بنا دی گئی، اب نہ الفاظ میں تبدیلی ممکن، نہ معانی میں، نہ حروف میں، نہ معارف میں، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ محفوظ علم ہے جو نبی ﷺ سے لکلا اور آج ہم تک پہنچا۔

### حدیث محفوظ:

اب قرآن کے بعد رہ گیا نبی ﷺ کا کلام جس کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں۔  
حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے

کچھ رجال الحدیث پیدا کر دیے، جو الفاظِ حدیث کے محافظ بنے۔

اور کچھ اللہ نے فقہا پیدا فرمادیے جو معانیِ حدیث کے محافظ بنے۔

تو کلام اللہ بھی محفوظ اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ، یہ محفوظ دین ہے۔

### علماء کا منصب صوفیا سے زیادہ اہم ہے:

اور علماء کا منصب بھی یہی ہے کہ وہ دین کے محافظ بن جائیں۔ لہذا منصب کی وجہ سے اللہ کے ہاں علماء کا درجہ بڑا ہے۔ یاد رکھنا کہ علماء کی منصبی خدمت بہ نسبت صوفیا کے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ وہ دین کے محافظ ہیں، اگر وہ نہ ہوں گے تو دین ہی نہیں رہے گا۔ جب دین نہ رہا تو صوفیا کیا کر سکیں گے؟ دونوں اہم ہیں لیکن نسبتاً کیسا جائے تو علماء کی منصبی خدمت زیادہ ہے۔ لہذا علماء کا اکرام دل میں ہونا چاہیے اور مشائخ کے ساتھ دل میں محبت ہونی چاہیے۔ آج لوگوں کو دیکھا کہ علماء سے اور علم سے بعد ہوتا جا رہا ہے یہ چیز یقیناً انتہائی قابل افسوس ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ علم ظاہر کا منکر واجب القتل ہے۔

((وَمَنْ لَمْ يَرُضِّي مِنْهُ شَيْئًا بِدُوْقٍ فَلَيْسَ يَضْرِبُ حَقِيقَةُ النَّبُوَّةِ

وَخَاصِيَّتَهَا))

”علم کے ساتھ ذوق نہیں ہو گا تو تم نبوت کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔“

بے عمل عالم گدھے کی مانند:

لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علم ہوا اور عمل نہ ہو تو اللہ نے فرمایا:

﴿كَمَعْلُ الْجِمَارِ يَعْمَلُ أَسْفَارًا﴾

”وہ گدھے کی مانند ہیں جن کے اوپر بوجھ لا دا ہوا ہے۔“

عمل ضروری ہے۔ اسی عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ مجالس کی جاتی ہیں ورنہ علم تو آپ حضرات کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ جذبہ کیسے پیدا ہو؟ وہ آگ کیسے لگے؟ ان مجالس سے وہ تسلی لگتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اندر بیقراری رہتی ہے۔ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چیزیں نہیں آتا۔ علم انسان کو بیقرار رکھتا ہے جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علمائے یہود کے بارے میں فرمایا:

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ”اگر وہ جانتے“

اس کا مطلب ہے ان کے علم کو اللہ نے علم ہی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ کتاب تو بڑی

پڑھتے تھے۔

﴿وَأَنْتُمْ تَتَلَوُونَ الْكِتَابَ﴾

اس لیے علم مخفی کے اوپر کفایت کر لیتا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔

مولانا روم حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ نے عجیب بات کہی، فرماتے ہیں:

— علم رسی سر بر قیل است و قال  
— نے ازو کسی نہیں حاصل نہ حال

- علم چہ بود آں کہ رہ نماید  
زنگ گمراہی ز دل برداشت  
علم وہ ہے جو دل سے گناہوں کے گند کو نکال دیتا ہے۔
- ایں ہوسہا از سرت پیروں کند  
خوف و خشیت در دلت افزون کند  
یہ علم وہ نور ہے جو تیرے سر سے دنیا کی ہوس کو نکال دے گا، اور اللہ کا خوف اور  
اللہ کی خشیت تیرے اندر بڑھادے گا۔ -
- تو ندانی جز بجز و لا بجز  
خود ندانی کہ حوری یا عجوز  
”تو نہیں جانتا کہ سوائے اس کے یہ جائز ہے یا ناجائز، تمہیں نہیں پتہ کہ تو حور  
ہے یا بڑھیا ہے۔ کچھ نہیں پتہ۔“
- بقول شاعر
- علم نبود غیر علم عاشقی  
ماجنی تلبیس ابلیس شقی  
”علم نہیں جس کے اندر عشق کا علم نہ ہو۔ جو عشق کے علاوہ علم ہے وہ تو ابلیس کی  
تلبیس ہے۔“
- علم چوں بر دل زنی یارے بود  
علم چوں بر تن زنی مارے بود  
”جب علم دل میں اترتا ہے تو یار بن جاتا ہے، علم جب جسم پر رہتا ہے تو اس  
وقت یہ سانپ کی مانند ہوتا ہے۔“

لہذا وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ جہالت کی مانند ہے۔ ع  
علیٰ کہ رہ حق نہ نماید است  
تو اس عمل کے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے علمائوں کو محنت کرنی پڑتی ہے۔

### علمائے کرام کے لیے رہنماء بحثیات

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ملفوظات ہیں جو اس عاجز نے اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے منتخب کیے ہیں۔ یہ مجلس علماء طلباء کی ہے، لہذا ہم اس میں کھل کربات کر سکتے ہیں، حضرت کے ملفوظات پڑھ سکتے ہیں۔

### ○ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا مرض:

حضرت فرماتے ہیں کہ علمائیں اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا بڑا مرض ہے۔ اب یہ بات طبیب کامل کہہ رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی، عمل میں بھی، تقویٰ میں بھی بڑا مقام دیا۔ جن کو وجود دلت کہا گیا ہے، ان کی تشخیص ہے کہ علمائیں اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کا مرض ہوتا ہے۔ کیونکہ منطق پڑھتے ہیں لہذا دلیلیں تو دے دیتے ہیں، جب بندے کو دلیلیں آتی ہوں تو دلیلوں کا کیا؟ جس چیز کی چاہو دلیل بنالو۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنا زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے کہ میلا لگا ہوا تھا، میں دیکھنے گیا، واپسی پر کسی بزرگ عالم نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ تو کیوں میلے میں گیا تھا؟ میں نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت جو بندہ اس نیت سے جائے کہ میں عالم بنوں گا تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میلے میں کیا ہوتا ہے تاکہ جائز نا جائز کے بارے میں بتاسکوں تو اس نیت سے جانا جائز ہو گا۔ تو عوام گناہ کریں گے اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے اور عالم گناہ کرے گا اس کو جائز بنا کے۔ Logic (دلیل) نکال لیں

۔۔۔  
گے

چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے بات ہونے لگی، اس عاجز نے ان کو ترغیب دی کہ نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے تو آگے سے جواب دینے لگے: حضرت! وہ شریعت کا حکم ہے نا کہ کسی کو نکاح کی نیت سے ذیکھا جاسکتا ہے، لہذا میں راستے میں گزرتے ہوئے نکاح کی نیت سے دیکھنا ہوں۔ میں نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر وہ کسی کی بیوی ہوتا، مگلی میں چلنی والی کا کیا پتہ کسی کی بیوی آرہی ہو تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ شیطان ایسا چکر چلاتا ہے کہ انسان اُناہ کو جائز بنا کے کر رہا ہوتا ہے۔

تواصلاح کی پہلی بات یہ کہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ جہاں محسوس کرے کہ میری رائے ٹھیک نہیں تھی، نیزا خیال ٹھیک نہیں تھا تو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ غلطی کو تسلیم کرنا آدم کی نسبت ہے اور تسلیم نہ کرنا شیطان کی نسبت ہے۔ اور اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے اندر ضرور شیطانیت کا اثر موجود ہے۔ آج جب بات کر دیتے ہیں تو پھر زمین جب دل محمد۔ زمین ہلتی ہے تو ہل جائے، مگلی محمد نہیں ہلتے گا۔ مگر سب میں یہ بات ضروری نہیں لوگوں میں تقویٰ والے، نیکی والے، بلند یوں والے، ایسے حضرات بھی موجود ہیں۔ پانچوں الگیاں تو برابر نہیں ہوتی لیکن بات اس لیے کر دی گئی کہ ایک بات جو دیکھنے میں آتی ہے بعض علماء اور طلباء میں تو اس لیے عمومی بات کر دی۔

## ○ اپنے اخلاص کا امتحان کرتے رہیں:

دوسری بات فرمائی کہ علماء کو اپنے اخلاص کا خود امتحان لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اخلاص سے کام کر رہے ہیں یا ریا کاری کر رہے ہیں، یا مخلوق کی رضا کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بندے کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ کس کے لیے کر رہا ہے؟

مثال کے طور پر ایک مدرسے سے فراغت ہوئی اور دوسرے مدرسے چلے گئے،  
گئے تو اس لیے کہ وہاں تجوہ زیادہ ہے مگر پہلے مدرسے کے تمام عیوب اور باشیں اب  
لوگوں کے سامنے کرتے پھریں گے۔ تو اخلاص کیسا بھی! آپ اگر دوسرے مدرسے  
میں جا رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ یہاں میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں وہاں پوری  
ہوتی ہیں۔ نہیں جس مدرسے میں جائیں گے ایک محاذ قائم ہو جائے گا۔ اس کے  
اساتذہ پر تنقید، اس کے طلباء پر تنقید، ان کی لفظ میں تنقید، ہر چیز بری ہو گئی۔ اب وہ  
دارالعلوم نظر نہیں آتا، کہیں گے جی وہ تو دارالعلم ہے۔ دارالبلغت فارسی۔ فارسی میں دارکا  
معنی ہے چھانسی۔ علم کا چھانسی گھر ہے۔ جب تک یہاں تھے دارالعلم تھا اور جب ہٹے  
اب دارالعلم بن گیا۔ تو اخلاص کا امتحان لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے الگ ہو گئے تو اب  
مخالف ہو گئے، بھی! اللہ نے جتنا چاہا آپ نے فائدہ اٹھایا، اب آپ اگر کسی  
دوسرے کے ساتھ محبت زیادہ محسوس کرتے ہیں تو یہ فرض ہے کہ پہلے کے نقایت بیان  
کریں۔ پہلے پر تنقید انسان ہمیشہ اپنی نفسانیت کی وجہ سے کرتا ہے، جہاں اخلاص ہوتا  
ہے وہ دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پہلے کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔  
تو دوسری بات کہ علاما کو اپنے اخلاص کا خود امتحان لیتے رہنا چاہیے۔

## ○ سب سے یکساں تعلق رکھیں:

اور تیسرا بات یہ کہ علاما کو چاہیے کہ ان کا سب کے ساتھ یکساں تعلق ہو۔ یہ جو  
ہوتا ہے ناپاریاں بن جانا، لوگوں میں گروہ بن جانا، علاما کو ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا  
چاہیے۔ حتیٰ کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاما اور فقہا کو عدالت میں شہادت بھی  
نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک خوش ہو گا تو دوسرا ناراض ہو گا۔ اس لیے سب کے  
ساتھ یکساں تعلق ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کے رہنمای ہیں، مسجد کے آدمی نمازیوں کے

امام نہیں ہیں، سب نمازیوں کے امام ہیں۔

## ○ عوام کے تابع بن کرنہ رہیں:

اور علماء کو چاہیے کہ عوام کے تابع بن کرنہ رہیں۔ اور واقعی ہم نے یہ مرض آج کے زمانے میں بہت دیکھا، ماشاء اللہ! کسی ملک کے صدر کو گالیاں نکلا لوئکال دین گے مگر مسجد کے صدر کی جو تیاں اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ تنخواہ وہ دینتا ہے، مسجد کا صدر ہے نا۔ وہ عوام میں سے ہوتا ہے مگر اس کا اکرام ہوتا ہے۔ اس کی ہربات کی تعمیل ہوتی ہے تا علم کی شان نہیں ہے کہ علماء عوام کے تابع بن کر رہیں۔

## ○ اہل دنیا سے مستغتی رہیں:

اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو علماء اہل دنیا سے مستغتی ہو جاتے ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ دین کے معاملے میں کھری بات کرتے ہیں تو ان کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہاں اگر کبھی دنیادار لوگ آئیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے کیوں؟

((نعمُ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيرِ))

جو وہ امیر تھا اپنے گھر میں تھا، جب وہ چل کر ایک عالم کے پاس آگیا تو وہ نعم الامیر بن گیا۔ لہذا دنیادار اگر آئیں تو ان کا اکرام کریں، ویسے بھی حدیث پاک ہے:

((وَإِذَا آتَاكُمْ كَرِيمُ الْقَوْمِ فَأَكْرِمُوهُ))

”او جب تمہارے پاس قوم کے کریم آئیں تو اس کا اکرام کرو،“

## غیر مقصود کے پیچھے نہ پڑیں:

اور غیر مقصود کے درپے نہیں ہونا چاہیے، علماء کا مقصد زندگی علم اور اس کی حفاظت

ہے۔ علم کے علاوہ جو ادھر ادھر کے معاملات ہیں وہ مقصود نہیں ہیں، ان کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ گھر میں نوکر کی خدمت کام آتی ہے، اس کا فیشن کام نہیں آتا، اگر وہ کام نہ کرے اور روز کپڑے ایک سے ایک پہن کر آئے تو اس کو کوئی نوکری پر رکھے گا؟ تو علام کا علم اور علم کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

## ○ نظافت کا اہتمام رکھنا چاہیے:

تاہم علام کو نظافت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، نبی ﷺ نے فرمایا:

((النَّظَافَةُ نِصْفُ الْإِيمَانِ))

((الظَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ))

تو دین میں پا کی اور صفائی کو پسند فرمایا، اندرگی ہو یا باہر کی، دونوں کو پسند کیا۔ لہذا علام کو طبعاً صفائی پسند ہونا چاہیے۔ اب صفائی سے مراد یہ نہیں کہ استری کلف کا خیال رہتا ہو۔ نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے پسینے کی بد یو نہیں آنی چاہیے۔ کپڑے میلے تو نہیں ہونے چاہیں کہ اپنے کپڑوں پر ہی داغ نظر آئیں۔ حدیث پاک میں ہے کپڑا صاف ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو طبعاً صفائی پسند ہونا چاہیے۔

اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ دانتوں میں جنم جاتی ہیں اور فقط مساوک سے دانت صاف نہیں ہوتے۔ تو بھائی مساوک تو کریں سنت کی سنت سے لیکن اگر آئس کریں اور یہ چیزیں کھانی ہیں تو پھر برش بھی کر لیں تاکہ منہ سے بد بو تونہ آئے۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ انسان اتنے بڑے منصب پر فائز ہوا اور منہ سے بو آ رہی ہو۔ اس لیے انسان کو صفائی پسند ہونا چاہیے۔

○ فضل عظیم کی حفاظت کرنی چاہیے:

تحصیل علم کے بعد ایک نعمت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں فضل۔ تو اس فضل عظیم کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ﷺ

﴿ وَعِلْمٌ كَمَا لَمْ تُكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

جب علم ملا تو علم کے ساتھ وہ فضل عظیم بھی ملتا ہے۔ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علم کوتازہ رکھنا چاہیے۔ علم کوتازہ رکھنے کی سب سے بہترین صورت تو مدرس ہے یا تو کل وقتی ہی پڑھالیں اور اگر اور نقاشوں ہیں تو جزو قتی پڑھالیں، مگر تعلیم تعلم کے ساتھ رشته تو جزو ارہنا چاہیے۔ اگر طلباء کے مدارس میں ان کو نہیں پڑھا سکتے تو چلو محلے کے نوجوان انگریزی پڑھوں کو پڑھالیں تاکہ علم کے ساتھ ایک رشته جزو ارہے۔ تو مدرس ہیں سب سے اعلیٰ اور اگر یہ صورت نہیں بن رہی، تو وعظ ہی سہی۔ صبح کو درس دے دیا، شام کو درس دے دیا، صبح کو تفسیر شام کو حدیث تو بھی انسان مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ بھی صورت نہ بنے تو آخری اور سب سے کم درجے کی صورت ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی علم تازہ رہتا ہے۔ تو تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور اختیار کرنی چاہیے۔

○ تمام شبہات کا جواب دینا ضروری نہیں:

ایک نکتہ کی بات: علام کو عوام الناس کے تمام شبہات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آج کے دور میں کچھ نوجوان سائنس کے مسئلے لے کر آ جاتے ہیں۔ تو بھی قرآن پاک میں سائنس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرض کی تشخیص کریں کہ اس بندے کے اندر مرض کیا ہے؟ اس کو جزو سے اکھاڑ دیں تو علاج ہو جائے گا۔ مثال

کے طور پر شکوک و شبہات کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں کی۔ جب محبت موئی ہوتی ہے تو عیب پتے ہوتے ہیں، محبت پتلی ہوتی ہے تو عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت موئی ہوگی تو شکوک پتے ہو جائیں گے بلکہ ختم ہی ہو جائیں گے۔ اور اگر محبت پتلی ہوگی تو شکوک موٹے ہو جائیں گے۔ لہذا اگر کوئی بندہ ایسا آیا جس کو دین میں شکوک و شبہات کا مسئلہ ہے تو تشخیص یہ ہے کہ اس کے اندر محبت الہی کی کی ہے۔ تو جواب دینے کی بجائے اہل محبت کی مجالس میں اس کو صحیح دستیج، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔

— اے لقاء تو جواب ہر سوال  
بات مشکل حل شود بے قیل و قال

مجھے کئی علامہ کہتے تھے کہ میں آپ کے حضرت سے ملوں گا تو تضوف کے کچھ سوال پوچھوں گا، میں کہتا کہ ضرور پوچھنا، جب وہاں جاتے تھے تو زبان کوتالا لگ جاتا تھا۔ تو مرض کی تشخیص کرنی چاہیے، ہر شبہ کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر عوام کے ٹرینڈر کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید سے سائنس نکال نکال کے پیش کرنا، جیسے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں۔

— رُشْقَنَا تَمَامًا جَمَالٍ يَارَ مُسْتَغْنِيَ إِسْتَ  
بَابُ ذُرْنَگٍ وَحَالٍ وَخَطْرَنَگٍ حَاجَتُ رَوَى زَيْبَارَا  
جو خوبصورت ہوتا ہے اس کو میک اپ کی پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ شریعت خوبصورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ اس سے سائنسیں کو ثابت کرتے پھریں۔

○ ذاتی عوارض کی بنابر امر بالمعروف سے نہ رکیں:  
پھر کئی مرتبہ ایک اور بھی الجھن ہوتی ہے کہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو فلاں

گناہ کرتا ہوں میں لوگوں کو درس کیسے دوں؟ چنانچہ پیروں ملک میں ہمیں یہ مسئلہ بہت پیش آیا۔ ہمارے کئی طلباء جو اپنے ملک میں پڑھ کر گئے ان کو کہا کہ بھائی درس شروع کرو، پڑھانا شروع کرو۔ تو یہی جواب کہ جی ہمارے تو اپنے اندر عمل نہیں ہے، نگاہ میں احتیاط نہیں، کھانے پینے میں ادھر ادھر کے کھانے بھی سب کھالیتے ہیں، ہم کیا کسی کو کہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے اور پھر شیطان ذہن میں کیا بات ڈالتا ہے؟

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ﴾

”لوگوں کو تم نیکی کی ترغیب دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو“

الہذا علم پڑھنے کے باوجود سب دین کا کام ٹھپ، بھائی آیت میں امر بالمعروف کو کوئی نیکی سے مشروط تو نہیں کیا گیا کہ جو خود نیک ہو گا وہ امر بالمعروف کرے اور جو نہیں وہ نہیں کر سکتا، تو مشروط لا نہیں ہے۔ آپ خود یہ سوچیں ایک تو گناہ لئے مرتكب ہوئے اور دوسرا امر بالمعروف کو چھوڑ کر ایک اور گناہ کے مرتكب ہو گئے۔ ایک کے مرتكب ہوئے ہیں تو دوسرا تو ٹھیک کر لیں نا کیا پتہ کہ امر بالمعروف کی برکت سے اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمادیں۔

چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی خاص بیماری محسوس کرتا تو میں اسی کے اوپر وعظ کیا کرتا تھا تو وعظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے شفاء عطا فرمادیتے تھے۔ بھی! سننے والوں کے کان دور ہوتے ہیں اور کہنے والے کے کان منہ کے نزدیک، یہ نیت کر لو کہ اے اللہ! میں بات تو دین کی کر رہا ہوں، اب جو کان سب سے قریب ہے اس کو سب سے پہلے توفیق عطا فرمادے۔

## ○ تحریر و تقریر میں مہارت ہوئی چاہیے:

علماء کو تحریر اور تقریر دونوں میں مہارت ہوئی چاہیے۔ کئی مرتبہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ جی ریا کاری ہے، نہیں! آپ دین کی بات پہنچانے ہے ہیں، سلیقے سے طریقے سے لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں گے تو اس کا اثر ہو گا۔

**«كَلِمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرٍ عَقُولِهِمْ»**

**”لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو“**

تاہم تحریر کا نفع خواص کو اور تقریر کا نفع عوام اور خواص دونوں کو ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں طریقوں سے دین کی خدمت کریں، تحریر سے بھی اور تقریر سے بھی۔ مگر سمجھنے کی بات ہے آج کل علماء تقریر کرتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے اور مشائخ ملفوظات بیان کرتے ہیں اپنی بزرگی کو غاہر کرنے کے لیے، یہ سارے نفس پرستی ہے۔

## ○ مال پر رال نہیں پکانی چاہیے:

ایک اور بات پھر علماء کو مال کے اوپر رال نہیں پکانی چاہیے، آج کل دنیاداروں کا یہی حال ہے۔

**﴿يَا لَيْلَةَ لَنَا مِثْلٍ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٌ﴾**

(قصص: ۹۷)

”کاش کہ میرے پاس اتنا ہوتا بعتا قارون کے پاس تھا، بے شک وہ توبہ را ہی نصیب والا ہے“

تو اس وقت کے علمائے کیا کہا تھا؟

**﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴾** (قصص: ۸۰)

”اور علم والوں نے کہا: ہے تمہاری بربادی اللہ کا ثواب بہتر ہے“

آج کے دور میں بھی جو علم کا وارث ہو گا وہ یہی بارث کرے گا: جو میرے نصیب میں ہے، اللہ مجھے پہنچا دے گا، میں مال کے پیچے اپنے دین کو نہیں بیٹھنے لگا۔ ہم نے دیکھا کہ علاماں کی وجہ سے ایسی مساجد میں امامت کرتے ہیں جو بد عقیدہ لوگوں کی ہوتی ہیں، بد عادات ہو رہی ہوتی ہیں اور خاموش ہوتے ہیں۔ کیا کریں جی ہمیں امامت جو وہاں ملی۔ تو ایسی جگہوں میں جہاں اتنے غلط عقائد کہ شاید دین سے ہی فارغ ہوں وہاں جا کر ان کے امام بنتے ہیں، مال کی خاطر۔

ہمیں ایک صاحب ملے، بچپن میں اپنی مسجدوں میں سے کسی میں ان کے پیچے نماز پڑھی تھی، بیس سال کے بعد ملے، پتہ چلا کہ اب حرم کی مجالس پڑھتے ہیں، آواز اچھی تھی۔ کہنے لگے: جی میں کیا کروں، وہ مجھے ایک رات کے ایک لاکھ روپے دیتے ہیں۔ اتنے پیسے مجھے سارے سال میں کوئی مسجد والا نہیں دیتا، کیا کروں؟ مال پر رال پکانہ اور دین کے اندر خلل ڈال دینا یہ علاما کا منصب نہیں ہے۔ جو مقدر ہے اللہ دے دیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ ضروریات کے لیے ترغیب بھی دے دیتے تھے، اطلاع بھی دے دیتے تھے، پیچے نہیں پھرتے تھے۔ تو ترغیب دینا انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اور اطلاع پہنچا دینا کہ یہاں ضرورت ہے، یہ سنت ہے۔ ترغیب دینا اور ضرورت کا اظہار کرنا، یہ سنت ہے اور دنیاداروں کے پیچے پھرنا یہ حرام ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، علم کے اپنے مقام کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو فرماتے ہیں۔

﴿أَفَرَأَيْتُمْ هُنَّا مُؤْمِنُوْمْ خَرَجُوا فَعَرَاجَهُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الْأَرْضِ قُنْ﴾

آیت پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔

## ○ علاما کافر بناتے نہیں، بتاتے ہیں:

اور آج عوامِ الناس کو یہ غلطی لگ گئی، جی علاما تو عوام کو کافر بناتے ہیں۔ بھائی اپنی غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ علاما عوام کو کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں۔ کوئی کفر کی بات کرے گا یا کلمہ کہہ گا تو وہ بتادیں گے کہ کفر کی بات ہے۔ بتاتے نہیں بتاتے ہیں۔ تو بتاتا تو جرم نہیں ہے۔ منہ پر کالک گئی ہوئی ہو کوئی کہہ کہ جی کالک گئی ہوئی ہے تو وہ دشمن نہیں وہ تو دوست ہے، اگر نہ بتاتا تو کالک گئی رہتی۔ اسی طرح اگر ہم کفر پر عمل کریں گے یا کفریہ بات کریں گے تو بتانے والا ہمارا دوست ہو گا وہ دشمن نہیں ہو گا۔ علاما کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں۔

## ○ علاما کو سلوک میں مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے:

ایک بات اور کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علاما کو سلوک سیکھنے میں مجاہدہ کم کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیوں؟ گیلی لکڑی کا جلانا مشکل خشک لکڑی کو جلانا آسان، وہ فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ طباع علم حاصل کرنے کے لیے جو مجاہدہ کرتے ہیں تو یہ خشک لکڑی بن چکے ہوتے ہیں۔ اب کسی صاحبِ دل کی مجلس میں آئیں، بس تیلی لگانے والی بات ہو گی۔ ہمارے مرہبِ عالم رحمۃ اللہ علیہ تک فرماتے تھے کہ کوئی عالم اگر مجھے چالیس دن دے دے، تو چالیس دن میں اس کے دل کے اندر نسبت کا نور پیدا ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک سے دلیل دیتے تھے جس میں فرمایا گیا کہ جو انسان چالیس دن پورے اخلاق کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، اس حدیث پاک سے دلیل دیا کرتے تھے۔ یَنَّا يَهُمُ الْحِكْمَةُ حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، حضرت اس حدیث پاک سے دلیل دیا کرتے تھے۔

نیت اگر ہو اور اخلاص کے ساتھ انسان اگر اپنے آپ کو پیش کر دے، چالیس دن ہمارے اکابر کے لیے بہت ہوتے ہیں۔

### ○ مضامین کو آسان بنانا کر پیش کریں:

تعلیم تعلیم کے دوران درس دیتے ہوئے مضامین کو آسان بنانا کر پیش کریں، نفس ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے طلب سمجھیں گے اس کو اتنا علم ہی نہیں۔ تو ایسی سخت اصطلاحات استعمال کریں گے کہ بات طلباء کے سر سے گزر جائے گی اور وہ کہیں گے کہ جی بڑا علم ہے ہمارے استاد کے پاس۔ تو مضامین کو آسان بنانا کر پیش کریں، جب طلباء سمجھ لیں گے تو استاد کی اہمیت خود بخوبی دل میں آئے گی۔

### ○ مدارس میں اصلاحی بیانات کرواتے رہیں:

اور اگر مدارس چلا رہے ہیں تو مدرسے میں اصلاحی بیانات معمول کے حساب سے کروانے چاہیں۔ بعض مدارس میں تو عصر کے بعد مشائخ کے ملفوظات کی مجلس ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ وگرنہ اصلاحی بیانات ہوتے رہنے چاہیں۔

﴿وَذِكْرُ فَيَّانَ الَّذِي كُرِيَ تَنْفُعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (ذریت: ۵۵)

”نیجت سمجھی، نیجت سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔“

اس سے طبیعت کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ طالبات کے مدرسے میں کہا کہ جو طالبات باقاعدگی کے ساتھ نونمازیں پڑھیں گی، پانچ نمازیں فرض اور چھٹی اشراق، ساتویں چاشت، آٹھویں اوایں اور نویں تہجد، تو اس کو ہم انعام دیں گے۔ اتنی سی بات کرنے پر سال کے آخر میں لکھ کر دیا گیا کہ مدرسے کی بتیں طالبات نے انعام حاصل کیا۔ معلمات نے اس کا ریکارڈ رکھا، الحمد للہ ایک



مدرسہ کے اندر بیس بچیاں ایسی نکلیں جنہوں نے پورے سال میں نومزدوں میں سے ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ چنانچہ جو اللہ کی محبت کے طلب گار ہوتے ہیں وہ تجد کا اہتمام تو اس طرح کرتے ہیں جس طرح عوام الناس فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اصلاحی بیانات سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

### ○ اپنے اوپر سخت دوسروں پر زرم:

ایک اصول کی بات کہ عالم کو اپنے اوپر سخت ہونا چاہیے اور دوسروں کے اوپر زرم ہونا چاہیے۔ نفس اس کے خلاف سمجھاتا ہے، نفس کہتا ہے کہ دوسروں پر سخت اور اپنے اوپر زرم۔

### ○ علم کی نعمت پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے:

یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ اس نے علم کا انور عطا فرمایا۔

رَضِيَّنَا قِسْمَةُ الْجَبَارِ فِينَا  
لَنَا عِلْمٌ وَ لِلْجُهَابِ مَالٌ  
فَإِنَّ الْمَالَ يَقْنُى عَنْ قُرْبَىٰ  
وَ إِنَّ الْعِلْمَ يَقْنُى لَا يَزَالُ

آج کے دنیا دار لوگ اگر اس علم کی اہمیت نہیں مانتے تو پھر کیا ہے، ہم نے تو وہاں پیش ہونا ہے جہاں پروردگار علم کی اہمیت کو جانتا ہے۔

ایک طالب علم تھا مدرسہ پڑھنے کے لیے آیا کسی انگریزی دان سے اس کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا: کیا ملاں بن رہے ہو کسی نے تمہیں نوکری بھی نہیں دیتی تو وہ بیچارہ گھر بیٹھے گیا۔ استاد بحمد اللہ تھے، انہوں نے پڑھ کر دیا کہ طالب علم آ کیوں نہیں

رہا؟ تو طالب علم نے حالات سنا دیے کہ میری تو اس بندے نے حوصلہ فکنی کی ہے کہ دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تو ملنے تو آ، تو طالب علم ملنے کے لیے آگئی۔ انہوں نے اس طالب علم کو ایک پتھر دیا اور کہا کہ جاؤ وہ جو بزری کی دکان ہے وہاں سے بزری لے کر آؤ۔ عورت بزری کی دکان چلاتی تھی، طالب علم نے بزری مانگی کہ اتنے کلوگا جریں دے دو۔ اس نے کہا: پیسے؟ اس نے کہا: یہ پتھر ہے۔ اس نے پتھر دیکھ کر کہا کہ پیسے دو ورنہ دو کلوگا جریں اور ہر ہی رکھ جاؤ۔ اس نے واپس آ کر کہا: استاد جی اس عورت نے بڑا غصہ کیا اور اس پتھر کے بد لے دو کلوگا جریں بھی نہ دیں۔ انہوں نے کہا: اچھا فلاں میاری والے کے پاس جاؤ، میاری والے کے پاس لے کر گیا اس نے کہا: بھائی میں اس پتھر کے بد لے ہزار روپے کا سامان دے دوں گا۔ شاگرد بڑا حیران ہوا، اچھا ہزار روپے کا! استاد کے پاس واپس آیا۔ استاد نے کہا: نہیں، فلاں چیولر کے پاس جاؤ! اس چیولر کے پاس گیا، جی یہ پتھر نہیں نے دینا ہے، اس نے کہا: اس کے بد لے لاکھ روپے دوں گا تو شاگرد اور حیران ہوا۔ استاد کے پاس آ کر کہنے لگا: حضرت مجھے بات سمجھنہیں آئی عورت نے تو ایک کلوگا جریں نہ دیں۔ میاری والا ہزار روپیہ اور چیولر والا لاکھ روپیہ دینے پر آمادہ تھا۔ تو استاد نے کہا کہ یہ پتھر نہیں ہیرا ہے، بزری والے کو اس کی کیاشناخت اور میاری والے کو بھی تھوڑا پتہ تھا اور چیولر کو سچھ پتہ تھا۔ اس نے لاکھ روپے قیمت لگائی۔ تو علم کی قیمت وہی لگائے گا ناجو علم کی شان کو جانتا ہے۔ اب انگریزی خان بیچارے کو کیا پتہ دینی علم کی اہمیت کا۔

پتھر تھوڑے دن گزرے تھے کے باڈشاہ وقت کو ایک مسئلہ پڑ گیا، اس نے یوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق۔ اب مسئلہ کا کسی کو پتہ نہیں کون فتویٰ دے؟ باڈشاہ وقت نے اسی استاد کے پاس بندہ بھیجا۔ استاد نے اس

اڑ کے کو بھیجا کر یہ فتویٰ ہے اور یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کو فتویٰ دے کر آؤ۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا اس کو جا کر جواب دیا کہ مجی یہوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْأَنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (اتین: ۳)

”جَعْلَتْنَا إِنَّمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْجِنِّينَ“

تو انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس نے جب مسئلہ بتایا تو بادشاہ نے اس کو انعام دیا، سوار یاں بھی دیں اور لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ شاگرد حیران کہ بادشاہ نے اتنا خزانے کا مال بھیجا!

تو بھائی دنیا دار لوگوں کے یہ جو کوئی نہیں (تیرے) ہوتے ہیں ان پر کان ہی نہ دھرا کریں۔ کوئی کہہ نا کہ ملاں بن رہے ہو مولوی بن رہے ہو، دل میں ہنسا کریں کہ بیچارے کو قیمت کا کیا پتہ؟ اس کو کیا معلوم کہ علم کی شان کیا ہے؟ اس کی چہالت کے اوپر دل میں حیران ہوا کرے۔ تاہم اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا یہ اللہ کا کتاب بردا انعام

۔۔۔

## ○ تین انبیاء کتابیں:

حضرت نانو توی ﷺ فرماتے تھے کہ تین کتابیں انبیاء ہیں۔

ایک فرماتے تھے قرآن پاک۔

دوسرافرماتے تھے بخاری شریف۔

اور تیسرا فرماتے تھے مثنوی شریف۔

تین کتابیں انبیاء ہیں، کیا علوم و معارف اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔

## ○ علم میں کامل ہونا مشکل ہے:

لیکن عجیب بات ہے کہ علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے انسان کو علم اور عمل دونوں کو جوڑنا پڑتا ہے، ہر بندہ کامل نہیں بنتا۔ چنانچہ ایک صاحب تھے سیبویہ استاد کے پاس بیٹھے حدیث پڑھ رہے تھے، تو حدیث مبارکہ تھی

((مَنْ قَاءَ فِيْ صَلَوَتِهِ أَوْ رَعْفَ))

تو اس نے حدیث پاک میں رَعْفَ کے بجائے رُعْفَ پڑھا  
توجہ بھول پڑھا تو استاد نے کہا کہ یار وہ علیم احمد کے پاس جا کے کچھ دن پڑھ لیتے۔ وہ نحو کے امام تھے۔ تو سیبویہ وہاں سے اپنے استاد علیم احمد کے پاس گئے۔ پھر ساری زندگی صرف نحو میں گزار دی، چون تیس سال کی عمر میں وہیں وفات ہوئی۔ امام الصرف وال نحو کہلانے لیکن باقی علوم تو حاصل نہ کر پائے، ایک ہی لائن کے اندر کامل بنے۔

ابن تیمیہ کو دیکھو! کتنا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منقولات کے کھلاڑی اور معقولات کے اناڑی تھے۔ منقولات حدیث کے علم میں علاجے کہا کہ ابن تیمیہ کہیں کہ میں نے حدیث نہیں سنی تو مان لو کہ وہ حدیث موضوع ہو گی۔ اللہ نے انہیں حدیث کا اتنا علم دیا۔ لیکن معقولات، تفہیم، فتاہت وہ تو نہیں تھی۔ فتاہت میں یہ حال تھا کہ آٹھ تراویح کا فتویٰ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم دین کو زیادہ جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد بنوی کے اندر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیس تراویح پڑھائیں اور کسی صحابی نے اس پر اعتراض ہی نہیں کیا۔ تو منقولات کے کھلاڑی اور معقولات کے اناڑی۔ کامل بننا کوئی آسان کام نہیں ہے کامل بننے کے لیے کاظمین کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔

## علمائے دیوبند کا کمال علم و عمل

ہمارے اکابر علمائے دیوبند کی شان یہ تھی کہ پہلے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر کاملین کی محبت پائی تو اللہ نے پھر ان کو کمال عطا کیا، چنانچہ یہ مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے تو وقت کے جنید اور بازیز نظر آتے تھے اور جب مسند حدیث پر بیٹھتے تھے تو وقت کے عسقلانی اور قسطلانی نظر آتے تھے، اللہ نے کامل بنا�ا۔

### حضرت انور شاہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان علمی:

اکابر علمائے دیوبند کے بارے میں ذرا سن لیجیے، بیٹا باپ کی بات کر کے خوش ہوتا ہے، طالب علم اپنے استاد کی بات کر کے خوش ہوتا ہے تو ہم اپنے استاد کی بات کیوں نہ کریں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شرح مسلم لکھی فتح المלה کے نام سے، جن کے علم کا لوبہ دینا مانتی ہے، وہ اپنے استاد علامہ انور شاہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

**سَأَلْتُ عَلَّامَةَ النِّقِّيِّ الْقِيقِيِّ الَّذِي لَمْ تَرِي الْعُيُونَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرِي مِثْلَهُ**

”یعنی میں نے پوچھا اپنے استاد و علامہ جو نقی بھی تھے اور نقی بھی تھے۔ وہ شخصیت کہ ان جیسے علم والا آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور ان کی آنکھوں نے بھی ان جیسا علم والا نہیں دیکھا۔“

**وَلَوْكَانَ فِي طَالِبِ زَمَانٍ لَّكَانَ لَهُ شَانٌ فِي سَبْقَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَظِيمٌ**

”اگر پرانے وقوں میں ہوتے تو علم کے طبقہ میں ان کی بڑی شان ہوتی۔“

وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا الْأَنُورُ شَاهُ الْكَشْمِيرِيُّ

اور وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

اب بتائیں کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے شیخ احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کی علیمت کی کیا شان ہو گی؟

حضرت القدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مجلس میں تشریف لاتے تھے تو مجھ پر ان کی علمی جلالت شان کی وجہ سے ثابت طاری ہو جاتی تھی۔

**حضرت مولانا شید احمد گنگوہی کی شان علمی رحمۃ اللہ علیہ:**

وَهُوَ عَلَامَةُ الْأَنُورُ شَاهُ كَشْمِيرِيُّ وَهُوَ هَارِسٌ إِلَى أَكْبَرٍ كَمْبَرٌ

إِنْ نُجَيِّرُ الْمِصْرِيَّ صَاحِبُ الْبُحْرِ الرَّاتِقِ أَفْقَهُ عِنْدِيْ مِنَ  
الشَّامِيْ

”میری نظر میں ابن نجیر مصری صاحب البحر الرائق شامی سے زیادہ فقیہ تھے“  
یہ بحرائق شرح ہے کنز الدقائق کی، مصر کے عالم ابن نجیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتاب لکھی۔ اس لیے جو شخص فی الفقہ کے طلباء ہوتے ہیں وہ اس کتاب سے بڑا استفادہ کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شامی سے زیادہ فقیہ تھے۔

لَاَنَّ اَمَارَاتِ الْفِقْهِ طُلُوعَ مِنْهُ

”اس لیے کہ ان کے اندر فقہ کی شان چمکتی تھی“

علامات چمکتی تھی ان سے۔ تو ابن نجیر کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی اور پھر

فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ شَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزُ الْمُحَدِّثُ الدِّهْلَوِيُّ وَكَذَلِكَ شَيْخُ  
مَشَايخِنَا رَهْبَنِيدُ أَخْمَدُ كَنْجُوْهِيُّ أَفْقَهُ عِنْدِيُّ مِنَ الشَّامِيِّ  
يَعْلَمُهُ اُنور شَاهُ شَمِيرِيُّ مُحَمَّدِيُّ فَرَمَّا تَهْيَى هِنَّ كَمِيرِيُّ نَظَرِ مِنْ حَفْرَتِ مُولَانَارِشِيدِ  
أَحْمَدَ كَنْجُوْهِيُّ مُحَمَّدِيُّ عَلَامَهُ شَامِيُّ مُحَمَّدِيُّ سَعْيَ زِيَادَهُ فَقِيهَ تَهْيَى

چنانچہ حضرت کنگوہی مُحَمَّدِیُّ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی مسجد اپنی  
کتاب ضیاع العلوم کے اندر فرماتے ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ مولوی رشید  
احمد مُحَمَّدِیُّ کو میری جگہ بلکہ مجھ سے اعلیٰ سمجھیں۔ یعنی استاد اپنے شاگرد کے بارے  
میں، میر اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو مجھ سے بہتر سمجھیں اور ان  
کے وجود کو ثقیمت سمجھیں۔ اب ایسے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے۔  
حاجی صاحب فرماتے تھے: جس طرح فمش تبریز مُحَمَّدِیُّ کی زبان مولانا  
روم مُحَمَّدِیُّ بنے، ایسے ہی مولوی قاسم میری زبان ہے۔ جو معارف میرے دل پر وارد  
ہوتے ہیں، اللہ ان کو مولوی قاسم کی زبان اور قلم سے ادا کر دادیتے ہیں۔

چنانچہ حضرت نانوتوی مُحَمَّدِیُّ نے جب مناظرہ شاہ جہاں پور میں حصہ لیا تو تمام  
نمایہ باطلہ کا بطلان انہوں نے ثابت کر دیا اور اسلام کی حقانیت ثابت کر دی۔  
جب حضرت نانوتوی مُحَمَّدِیُّ کی کامیابی کا علم مولانا رشید احمد کنگوہی مُحَمَّدِیُّ کو ہوا تو ان  
کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ شاگرد نے پوچھا کہ اس کامیابی پر آپ کی آنکھوں  
میں آنسو کیوں؟ کہا کہ ہاں لگتا ہے کہ اب ہمارا دوست ہم سے جدا ہو جائے گا، ان کو  
اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ دنیا میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، انہوں  
نے دنیا میں اس کو ثابت کر دکھایا۔ اسی سال حضرت نانوتوی مُحَمَّدِیُّ کی وفات ہو گئی۔  
اللہ رب العزت نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو ایسی علمی شان عطا فرمائی تھی۔

اور حضرت مولانا شید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سائیں تو کل شاہ اقبالی مجدد بھٹکے فرماتے تھے میں نے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد بنوی میں مندافات کے اوپر بیٹھے دیکھا ہے۔ ایسی فقاہت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور میاں عبد الرحمن ولاعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الکشف بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس شخص کا قلم عرش الہمی کو دیکھ کر چلتا ہے۔

**حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان:**

چنانچہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف بذا معروف تھا، صاحب کشف بزرگ تھے۔ اتنا کشف تھا کہ حضرت عبدالحی ملکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا علمی مقام تھا، موطا امام مالک پر انہوں نے حاشیہ لکھا، شرح وقایہ پر انہوں نے حاشیہ لکھا۔ وہ مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے تو راستے میں قصر نماز پڑھنے میں کوئی غلطی کر لی تو مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے جب مصافحہ کیا تو فرمایا کہ اتنے بڑے عالم بنے پھرتے ہو اور تم نے راستے میں قصر نماز میں یہ غلطی کر لی، اور انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ ایسا کشف اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ صاحب تفسیر حقانی مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ جمل اور ابل کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: اونٹ۔ تو حضرت نے فرمایا: دیکھو جمل کا معنی ہوتا ہے موٹار سا اور ابل کا معنی ہوتا ہے بادل۔ کیونکہ مفسرین نے اس کا ترجمہ بادل بھی کیا۔

﴿فَلَمَّا يُنْظَرُونَ إِلَى الْأَبْلِيلِ كَهْفَ خُلُقتُ﴾ (الغافر: ۷۶)

مولانا احمد علی سہار پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور اکابر میں علمادیوں میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بڑا اعلیٰ مقام عطا

فرمایا تھا۔ انہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا، جب ابھی لکھر ہے تھے تو مولا نافضل الرحمن ﷺ مٹنے کے لیے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ مولا نا حاشیہ میں فلاں جگہ پر کیا لکھا؟ دیکھا تو وہاں کتابت کی غلطی تھی۔ ایسا کشف اللہ نے حضرت مولا نا فضل الرحمن مراد آبادی ﷺ کو عطا کیا تھا۔

چنانچہ ایک مرتبہ ان کا خادم حضرت گنگوہی ﷺ کو ملنے کے لیے آیا تو رخصت ہوتے ہوئے حضرت گنگوہی ﷺ نے فرمایا کہ اپنے پیر کو کہنا کہ خلقِ محمدی کو اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں، اس لیے کہ مولا نا فضل الرحمن مراد آبادی ﷺ آنے والے کوڈا نئتے بہت تھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا بڑے جلالی ہیں تو طبیعت ذرا ان کی ایسی تھی۔ تو حضرت گنگوہی ﷺ نے ان کے خادم کو کہا کہ اپنے پیر کو کہنا کہ وہ خلقِ محمدی اختیار کریں اور ضبط سے کام لیں، وہ جب ملنے آئے تو مولا نا فضل الرحمن ﷺ نے کہا کہ اچھا تم ان سے مل کر آئے تو انہوں نے کہا کیا تھا؟ کشف ہو گیا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا: ”پیر سے کہنا کہ خلقِ محمدی اختیار کریں“۔ کہنے لگے کہ دراصل میرے پاس جو آتے ہیں یہ اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ اور میں اس آتے ہیں، اس لیے میں ان کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ اور میں اس صاحزادے جیسا ظرف کہاں سے لاوں؟۔ یعنی حضرت گنگوہی ﷺ کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس صاحزادے جیسا ظرف کہاں سے لاوں، وہ سمندر کے سمندر پی کر بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہی ﷺ کی علمی شان کیا تھی؟

ہماری نظر میں وہ قطب الارشاد تھے۔ قطب لا ارشاد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلا واسطہ یا بلو اسطردین کے ہر شعبے کا کام لیتے ہیں۔

حضرت مولانا شیدا حمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی علمی خدمات:

اب ذرا سینے! حضرت مولانا شیدا حمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چار خلفاء تھے۔

ان بیٹیں سے پہلے خلیفہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے ان سے دین کی  
دھوت کا کام لیا و نیا میں۔ یہ دھوت دین کا ایک شعبہ ہے۔

﴿وَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾

اور دوسرا شعبہ تذکیرہ۔ چنانچہ حضرت کے دوسرے خلیفہ شاہ عبدالرحمٰن رائے  
پوری رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تذکیرہ کا کام لیا۔ شروع میں  
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعتوں کو تذکیرہ کے لیے رائے پور بیججا کرتے تھے وہ  
”وَيُزَكِّيهِمْ“ کا کام بھی ان سے لیا۔

﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ﴾

یہ تیسرا شعبہ، کتاب کا علم سکھانا۔ تو ان کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد  
سہار پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کے خلیفہ تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ  
بتائیں اللہ نے ان سے ”وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ“ کا کام لیا کرنیں لیا؟ آج دنیا کے  
اندر اگر قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ فضائل اعمال کی  
کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیض باری فرمادیا۔

چوتھا شعبہ ہے:

وَالْحِكْمَةُ

حکمت سے اقامت دین کرنا۔ تو ان کے خلفاء میں ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ  
ہیں۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اقامت دین کا کام لیا کہ  
نہیں لیا؟

تو حضرت رشید احمد گنگوہی محدث قطب الارشاد تھے۔ اللہ رب العزت نے دین کے تمام شعبوں میں ان سے کام لیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ علماً دیوبند کے اکابر تھے۔ حضرت نانو توی محدث حضرت گنگوہی محدث۔ پھر دیکھیے! حضرت اقدس تھانوی محدث مجدد دہلت، اللہ نے ان سے علم کا بھی کام لیا اور تزکیہ اور تصفیہ کا بھی۔ علم کے بارے میں دنیا میں دو ہزار کتابیں ان کے نام سے موجود ہیں۔ ایک آدمی نے فہرست بنائی تھی تو انہوں نے چھیس سو کتابوں کی فہرست دی تھی۔ لیکن کتابوں سے اور کتابیں جب بن گئیں ان کو کمال دیں تو دو ہزار کتابیں انہوں نے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا کام لیا؛ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تزکیہ کا کام بھی لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں! آج پاکستان میں اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، ان میں سے اکثر مدارس ان کے شاگردوں کے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع محدث ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد رکھی۔

حضرت بنوری محدث ان کے خلیفہ، انہوں نے بنوری ثاون کی بنیاد رکھی۔

یہاں پنجاب میں جامعہ اشرفیہ ان کے خلیفہ حضرت مفتی محمد حسن محدث نے اس کی بنیاد رکھی۔

ملٹان کے اندر خیر المدارس بڑا مدرسہ ہے، ان کے شاگرد تھے حضرت خیر محمد جانندھری محدث، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔

یہ بڑے بڑے علم کے چشمے جو آج اس ملک میں ہیں تو یہ فیض کن کی وجہ سے پھیل رہا ہے، ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔

پھر جو باقی کام تھا اللہ نے حضرت مدینی محدث سے پورا کروادیا۔ ایک طرف تو

فرنگی کو ملک سے نکالنے کی محنت کر رہے تھے، جلوسوں میں تقاریر کیا کرتے تھے، دوسری طرف رات کے وقت مدرسہ میں آتے تھے اور بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ اور دیکھو! بڑے بڑے مدارس ان بکے شاگردوں نے بنائے۔ چنانچہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ہمارے سر کا سایہ، وفاق المدارس کے صدر، آج انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے، جامعہ فاروقیہ ہمارے اکابر کا پودا لگا ہوا ہے۔

پھر آگے دیکھیے! پنجاب کے اندر جامعہ مدینیہ، حضرت مولانا محمد میاں حضرت مدینی عویشیؒ کے خلیفہ تھے ان کا قائم کر دہ ہے۔ اور اگر سرحد میں دیکھو! تو دارالعلوم حقانیہ ہے حضرت مولانا عبد الحق عویشیؒ یہ بھی ان کے خلیفہ تھے، ہمارے حضرت مولانا عبدالمالک صدیقیؒ عویشیؒ سے بھی انہوں نسبت پائی۔

### ترتیبی مجالس کا مقصد:

تو معلوم ہوا کہ جتنا علم کا فیض آگے چلا یا ان لوگوں سے چلا جنہوں نے علم بھی سیکھا اور مشائخ کی صحبت میں بھی رہے جہاں انہوں نے عمل کرنا بھی سیکھا۔ تو ترتیبی مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس چیز کو ذہن میں ڈالا جائے کہ ہم نے علم تو حاصل کر لیا تھیں علم کی منزل طے ہو گئی اب استعمال علم پر ہمیں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو علم کو استعمال بھی کریں اور تقویٰ کی زندگی اپنا میں تاکہ اللہ علم کا فیض جاری کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، جن لوگوں نے دین کا کام کیا۔ سبحان اللہ وقت کے مدد بنتے۔

### علماء کی نظر میں مجد دین امت:

چنانچہ ہمارے اکابر علمائے دیوبند میں وقت کے مجدد پیدا ہوئے ہیں۔ علمائے

لکھا ہے کہ مجدد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ان سے تجدیدی کام لے لیتے ہیں۔

(۱) پہلی صدی ہجری میں عمر بن عبد العزیز رض پہلی صدی کے مجدد تھے۔

(۲) دوسری صدی میں امام اعظم امام ابو حنفیہ رض اور امام شافعی رض۔ انہوں نے اصول فقہہ ترتیب دی، فقہ کی تدوین فرمائی، تو یہ مجدد تھے۔

(۳) تیسرا صدی کے مجدد امام طحاوی رض اور امام اشعری رض۔ نے علم کلام کے اصول لکھے۔

(۴) چوتھی صدی میں قاضی ابو بکر بالقلانی رض تفسیر میں آپ ان کا نام اکثر پڑھیں گے۔

(۵) پانچویں صدی میں امام غزالی رض۔ تصوف کے امام۔

(۶) چھٹی صدی میں امام رازی رض۔ فلسفہ کے امام۔

(۷) ساتویں صدی میں حافظ ابن دیقیق العید رض۔ بڑے رجال الحدیث میں سے تھے۔

(۸) آٹھویں صدی میں حافظ ابن حجر رض، سراج الدین بلطفتی مصلح، زین الدین عراقی۔ حدیث کے رجال۔

(۹) نویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی رض۔ اللہ نے ان کو حدیث اور تفسیر دونوں کا علم دیا جلا لیں میں ان کا حصہ۔

(۱۰) دسویں صدی میں طالعی قاری رض۔ انہوں نے جمع الاکبر لکھی، مرقاۃ لکھی شرح مکملۃ اور جمع الوسائل۔ شماں ترمذی کے اوپر ایک کتاب عجیب لکھی۔

(۱۱) گیارہویں صدی میں امام ربانی مجدد الف ثانی رض۔ انہوں نے وین اکبری

کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں، سنت کا اجر فرمادیا۔

(۱۲) بارہویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

یہ شاہ ولی اللہ بر صیر کے وہ بزرگ ہیں جن کو جامع الاسانید کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی سندیں ہیں علمائے دیوبند کی ہوں، بریلوی کی ہوں یا غیر مقلدین کی ہوں، عجیب بات ہے کہ سب جا کر دہاں رکتی ہیں، پھر ان سے آگے علامہ ابو صاحب مدفن رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں۔

(۱۳) تیرہویں صدی میں ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور علامہ خالد کردی کے مرید علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

تجدیدی کام کیسے ہوا؟ اس زمانے میں مختلف علاقوں کے نواب ہوتے تھے، آپ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافاً کے نام پڑھ کر دیکھ لیجیے، ہر نواب کے ساتھ ان کے خلاف میں سے کوئی ناکوئی ایک خلیفہ موجود تھے جنہوں نے ان کی ریاست کے اندر دین کے احکام کا اجزرا کیا ہوا تھا۔ تو نابوں کو وجود میں پر رکھا تھا وہ حضرت کے خلاف نے رکھا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تیرہویں صدی کا مجدد لکھا ہے۔

(۱۴) اور چودہویں صدی میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جن سے آج اس صدی میں اللہ نے اپنے دین کا کام لیا۔

تو ہمارے اکابر جبالِ اعلیٰ بھی تھے اور باطن کی نعمت کے حامل بھی تھے۔ اس لیے آج علمائے دیوبند کا فیض اللہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے ان بزرگوں سے کیسا کام لیا۔

## حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی باکمال شخصیت:

چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اسیر مالا کہتے ہیں۔ ان کی عبادت ان کی تواضع ان کی تدریس اور ان کی اقامت دین کی کوششیں ہر چیز عجیب ہے۔ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا کہ جی میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے۔ کہا اندر آجائیں تو ملاقات ہو جاتی ہے، خود ان کو رسیو کیا، مہمان خانے میں بٹھایا، کھانا لے کر آئے، پانی دیا۔ اس نے کہا کہ جی شیخ الہند صاحب سے ملنا ہے۔ فرمایا: جی ملاقات ہو جاتی ہے، تھوڑا آرام کر لجیے، لٹادیا، پھر اس نے دیکھا تو وہی بھائی پاؤں دبانے بیٹھا ہے، سوچتا ہے یہ تو گھر کا خادم ہے، یہ مجھے ان کاموں میں مصروف کر رہا ہے، ملنے نہیں دے رہا۔ اس نے کہا: بھی! آپ مجھے شیخ الہند سے ملاتے کیوں نہیں؟ جب مہمان کو کھانا کھلا دیا پاؤں دبادیے تو فرمایا بھی! اگر تو محمود الحسن سے ملنا ہے تو وہ میرا نام ہے، پتہ نہیں شیخ الہند صاحب کون ہیں؟ عاجزی کی انتہاد پکھیے۔

رمضان المبارک میں پوری رات تراویح میں گزارتے تھے۔ گھر کی عورتوں نے قاری صاحب کو پیغام بھجوایا کہ حضرت کی طبیعت کمزور ہے، کھاتے بھی کم ہیں، درمیان میں ایک دن کا وقفہ ہی دے دو۔ تو قاری صاحب نے بہانہ بنا�ا کہ حضرت! آج میں تھکا ہوا ہوں تراویح تو پڑھوں گا مگر رات بھر کا قیام نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت دوسرے کی تکلیف کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، انہوں نے کہا: ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، قاری صاحب آپ آرام کیجیے۔ جب تراویح پڑھ لی تو فرمایا کہ آپ میرے کمرے میں میرے بستر پر جا کر سوئیں۔ زبردستی قاری صاحب کو اپنے بستر پر سلایا۔ قاری صاحب نے کہا کہ میں لیٹا، اندھیرا کر دیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا تو کوئی میرے پاؤں دبارہ ہے۔ اٹھ کر دیکھا تو میرے شیخ، میرے جیگر، میرے استاد، شیخ الہند میرے

پاؤں دبار ہے ہیں۔ حضرت! آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا: قاری صاحب آپ تھک گئے تھے، میں نے کہا کہ میں ذرا آپ کے پاؤں دبادوں، آپ کی تھکاٹ دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا: حضرت پاؤں ہی دبانے ہیں تو چلیں میں آپ کو قیام میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ پوری رات پھر قیام کے اندر گزار دی۔ یہ عبادت، یہ علم، یہ تواضع، یہ تقویٰ تھا۔

اقامتِ دین کی کوششیں دیکھیے کہ جب وفات ہوئی تو عسل کرنے والے نے دیکھا کہ کمر کے اوپر زخموں کے نشان تھے۔ سمجھنہ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ جب حضرت مدینی رض تشریف لائے تو اس وقت اس نے ان سے کہا کہ گھروالوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ نشان کیسے ہیں، ہمیں بھی کسی کو نہیں پتہ یہ کس وجہ سے ہیں؟ کوئی بیماری تھی یا چوتھی گلی تھی یا کیا وجہ تھی؟ تو حضرت مدینی رض کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ حضرت! کیا ہوا؟ فرمایا: میرے شیخ نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ یہ راز ہے زندگی بھر کسی کے سامنے تم نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے زندگی بھر زبان نہیں کھولی، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں بتاتا ہوں جب ہم مالاثا میں تھے، کالے پانی میں تو فرنگیوں نے حضرت کو کہا کہ اگر تم ہماری حمایت کے دولظ کہہ دو تو ہم تمہاری اس قید کو ختم کر دیں گے اور اگر نہیں کہو گے تو ہم تمہیں اذیت ناک سزادیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ ان کو سزا میں دی گئی تھی کہ وہ وقت بھی آیا جب آگ کے انگاروں پر حضرت کو لٹایا گیا اور کہا گیا کہ یہ الفاظ کہیں، حضرت نے پھر بھی نہ کہے۔ انگریز کہتے تھے کہ دولظ کہنے پر ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، حضرت جواب میں فرماتے تھے کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ اور پھر رات کو حضرت اپنے کمرے میں آتے تو تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ لیٹ کر سویا نہیں

جاتا تھا تب میں اور دوسرے جو احباب تھے ہم حضرت سے کہتے: حضرت ادین کے اندر حیلے کی بھی تو اجازت ہے، آخر امام محمد علیہ السلام نے کتاب الحمل لکھی ہے، تو آپ بھی کوئی ذمہ نظر کہہ دیں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ حضرت نے یہ بات سنی، میری طرف دیکھ کر کہا: حسین احمد! کیا سمجھتے ہو میں تکلیف کی وجہ سے ان کی پسند کی کوئی بات کر دوں گا، ہرگز ایسا نہیں، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلاں کا..... میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خباب کا..... میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، امام عظیم کا، امام احمد بن حنبل کا..... میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، آخری عمر میں جن کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے..... میں روحانی بیٹا ہوں ان حضرات کا یاد رکھنا یہ لوگ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔

حضرت مدفن علیہ السلام نے پھر ایک اور بات سنائی کہ درمیان میں جب فرنگی نے دیکھا کہ یہ مانتا ہی نہیں تو اس نے پھانسی کا حکم جاری کر دیا۔ تو حضرت کے چہرے پر خوف اور آنسو رکتے ہی نہ تھے، بڑی عجیب ڈر کی کیفیت تھی۔ ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا کہ رور ہے ہیں اور خوف زدہ ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں حیران ہوتے کہ پھانسی کا حکم ہے تو اچھا ہے جان چھوٹ جائے گی منزل مل جائے گی، مگر حضرت کیوں اتنا پریشان ہیں؟ کہنے لگے: ایک دن ہم سب شاگردوں نے مل کر کہا کہ حضرت! اگر پھانسی کا حکم ہوا تو کیا ہوا یہ آپ کو پھانسی دے دیں گے اس تکلیف سے تو نجات مل جائے گی اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ جب یہ بات کہی تو اس وقت شیخ الہند نے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے: حسین احمد میں پھانسی سے نہیں ڈر رہا، میں اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہا ہوں۔ وہ پروردگار بھی بھی بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور اس کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ مجھے یہ خوف دل میں ہے، اللہ بندے کی

جان بھی لے لیتا ہے اور کبھی قبول بھی نہیں کیا کرتا، مجھے اللہ کی شان بنے نیازی سے ڈر لگتا ہے، یہ ہمارے اکابر تھے۔

— کفر ناچا جن کے آگے بار بار گنگی کاناچ  
جس طرح جلتے توے پر ناق کرتا ہے سقع  
ان میں قاسم ہو کہ انور شاہ محمود الحسن  
سب کے دل تھے در دمند اور سب کی فطرت ارجمند  
((أُولِئِكَ أَبْيَانٌ لَّجِئْنَاهُ بِمِثْلِهِمْ))

یہ ہمارے اکابر تھے جن کی روحانی اولاد آج آپ کے ہاں بیٹھے ہیں ان اکابر کی زندگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج ارادہ کر لیجیے کہ جو ہم نے سیکھا آج کے بعد ہم اس کو زندگی میں اپنا کیسے گے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کیسے گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پہاں سے خالی نہ لوٹائے۔ آمین۔

وَ اخِرُّ دُعَوَاتِنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





﴿إِنَّ أَوْلَيَاً وَهُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (انفال: ٣٣)

## تقوی کا خصوصی اہتمام

بيان: محبوب العلماء اصلحاء بزبدۃ المسالکین، سراج العارفین  
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم  
تاریخ: 18 جولائی 2010ء، یروز اتوار ۵ شعبان، ۱۴۳۱ھ  
مقام: جامع مسجد نسب مجدد الفقیر الاسلامی جنگ  
موقع: خصوصی تربیتی مجلس برائے علماء طلباء (تیسری مجلس)

## اقتباس

تو تقویٰ سے دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ آج کسی بندے کو نہیں کہ بھتی! میں تمہاری قلائی ملک کے کسی بڑے سے ملاقات کروادیتا ہوں، کام آسان ہو جائیں گے تو وہ خوشی سے پھولانہیں سائے گا۔ اب یہاں پروردگارِ عالم فرمار ہے ہیں کہ تم یہ کام کر لو تو تمہارے کاموں کو میں سنواروں گا۔ عجیب بات ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تقویٰ بہترین زندگی گزارنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے، اللہ نے اس کو اچھل کر دیا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور حقیقت میں جتنا چھوڑتے ہیں، پروردگار اس سے زیادہ لوٹاتا ہے۔ چھوڑتے ہم تھوڑا ہیں وہ پروردگار واپس زیادہ لوٹاتا ہے۔

﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (ابقرۃ: ۲۶۱)

(حضرت مولانا پیر زو الفقار احمد نقشبندی مجددی رحلہ)

## تقویٰ کا خصوصی اہتمام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَیْ اَمَّا بَعْدُ:  
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 ﴿اَلَا إِنَّ اُولَئِاءِ اللّٰهُ لَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (یوس: ۲۲-۲۳)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِي مَقَامِ أَخْرَى:

﴿إِنْ أَوْلَيَا وَهٗ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ (انفال: ۳۲)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِنْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝  
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

### تقویٰ کے معانی:

تقویٰ کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی استعمال ہوا اور قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا۔ اس کا معنی ہے بچنا، حفاظت، پر ہیزگاری۔

### تقویٰ کی لغوی تحقیق:

یا اصل میں باب افعال کا اسم مصدر ہے اور اس کا مجرد "وقیٰ یقیٰ وقاریٰ" ہے۔ وقاریٰ کا معنی ہے بچانا اور حفاظت کرنا۔ واق کا معنی ہے بچانے والا، جیسے قرآن

مجید میں استعمال ہو۔

﴿فَمَا لَهُمْ مِنْ وَاقِٰ﴾

عرب لوگوں میں مثل مشہور ہے:

”الْوِقَايَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْعِلاجِ“

”کہ پہبیز علاج سے بہتر ہے“

سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ واقیہ ہے، بچانے والی۔ کیونکہ یہ شدائد، مصائب اور امراض سے بچاتی ہے۔

صحابہ کرام ﷺ فرماتے تھے کہ جب کسی موقع پر جنگ تیز ہوتی تھی اور دشمن کا زور ہوتا تھا۔

إِنَّقِيتَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ

”جب جنگ شدید ہو جاتی تھی تو ہم اپنے آپ کو نبی ﷺ کی اوٹ میں آکر بچاتے تھے۔“

تقویٰ کی اصطلاحی تعریف:

امام راغب اصفہانی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ شریعت میں تقویٰ کہتے ہیں:

”حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يُؤْثِمُ وَذَالِكَ يَتَرَكُ الْمُحْظُورُ وَقَتِيمُ ذَالِكَ يَتَرَكُ بَعْضَ الْمُبَاحَاتِ“

”اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا اور یہ منوع چیزوں سے بچنے سے ہوتا ہے اور حرام سے بچنے کے لیے بعض اوقات مباحثات کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔“

○ علامہ جد جانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”طاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے اور معصیت میں تقویٰ سے مراد پچنا ہے۔“

○ یہ بھی کہا گیا:

**الْمُحَافَظَةُ عَلَى آدَابِ الشَّرِيعَةِ وَمُجَانَبَةُ كُلِّ مَا يُبَعِّدُ الْمُرْءَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى**

”تفویٰ کہتے ہیں آداب شریعت کی حفاظت کرنا اور وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس سے بچنا ہے۔“

○ یہ بھی کہا گیا:

**هِيَ تَرْكُ حَطُوطِ النَّفْسِ وَمَبَانِيَةُ الْهُوَى**

”یعنی لذات اور خواہشات کے مقامات کو چھوڑنا ہے۔“

○ یہ بھی کہا گیا:

**هِيَ تَجْنِبُ عَنْ كُلِّ مَا يُوَمِّرُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ**

”یہ ہے بچنا ہر گناہ سے کسی بھی کام کے کرنے میں یا چھوڑنے میں۔“

○ مالک بن انس رض فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہے:

**رَضِيَ بِالْقَضَاءِ وَصَبَرَ عَلَى الْبَلَاءِ وَشَكَرَ عَلَى النَّعْمَاءِ**

”قطا پر راضی رہنا بلاء پر صبر کرنا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔“

تو آسان اس کی تفسیر یہ ہے کہ

”ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور کر دے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔“

## تقویٰ کے متعلق سلف صالحین کے اقوال

امت کے اکابرین نے اس کی تفسیر خوب اچھی طرح بتائی تاکہ ہر بندہ سمجھ لے  
کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟

○ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

**الْتَّقْوَىٰ هِيَ الْخُوفُ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْعَمَلُ بِالْتَّنْزِيلِ وَالْقُنَاعَةُ بِالْقُلْيُلِ  
وَالإِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيمِ**

”یعنی اللہ رب العزت سے ڈرنا اور قرآن مجید کے مطابق اعمال کو اپنانا  
تحوڑے پر قناعت کر لینا اور موت کی تیاری کرنا۔“

○ ابن رجب حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

**أَصْلُ التَّقْوَىٰ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَخَافُ وَيَحْذَرُهُ وَقَائِمَةً  
تَقْيِيَةً مِنْهُ**

”کہ جو چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں بندہ اپنے اور ان چیزوں کے  
درمیان ایک آڑ بنالے، کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔“

○ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا:

ما التَّقْوَىٰ ؟ ” تقویٰ کیا ہے؟“

فرمایا:

امَّا تَلْقَى طَرِيقًا فِيهِ شَوَّكًا ؟

”کیا بھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں کانے ہوں؟“

قالَ نَعَمْ ” کہا کہہاں“

فَقَالَ مَاذَا فَعَلْتَ؟ ” تو کسے گزرا؟ ”

فرمایا:

أُشْهِرُ عَنْ سَاقِيْ وَ اُنْظَرُ إِلَى مَوَاضِعِ قَدَمِيْ وَ أَقْدِمِ قَدَمًا وَ أُخْرَ  
أُخْرَى مَخَافَةً أَنْ تُصِيبَنِي شَوَّكَةً

”جب میں گزرنے لگا تو میں نے اپنے تہیند کو چادر کو ذرا اور اٹھالیا اور پھر  
جہاں قدم رکھتا تھا اس جگہ کو دیکھتا تھا، ایک قدم اٹھاتا تھا جہاں کانے نہیں  
ہوتے تھے اور دوسرا قدم ہٹاتا تھا جہاں کانے ہو جاتے تھے“

کانے والی جگہ تھی تو قیچ کر گزرا، ڈر تھا کہ کوئی کانے چھوٹنے جائے۔

وَ قَالَ أَبْيَ أَبْنُ كَعْبٍ : تِلْكَ التَّقْوَى  
ابی بن کعب رض نے فرمایا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے۔

○ سفیان ثوری رض فرمایا کرتے تھے:

إِنَّمَا سُمِّيَ مُتَقِّيًّا لِأَنَّهُمْ إِنْتَوْا مَلَاءَ يَتَقَبَّلُ

”کہ متقویٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بچتے ہیں ان چیزوں سے جن سے  
عام لوگ نہیں بچتے۔“

○ ابن عباس رض فرمایا کرتے تھے کہ متقیٰ وہ ہے:

الْمُتَقِّيُّ الَّذِي يَتَقَبَّلُ الشَّرُكَ وَالْكَبَائِرَ وَالْفُوَاحِشَ

”جو شرک سے، کبائر سے، اور فواحش سے، بچتے وہ متقیٰ ہوتا ہے۔“

○ ابن عمر رض نے فرمایا:

الْتَّقْوَى أَنْ لَا يَرَى (نُفَسَّهَ) خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ

”تقویٰ یہ ہے کہ اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھے۔“

اپنے آپ کو ہر ایک سے کم ترجیح ہے۔  
○ کسی بزرگ نے یہ بھی کہا:

**الْمُتَّقِيُّ مَنْ؟ إِذَا قَالَ قَالَ اللَّهُ، إِذَا سَكَّتَ سَكَّتَ لِلَّهِ، وَإِذَا ذَكَرَ ذَكَرَ اللَّهِ**

تعالیٰ

”متقی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بولے تو اللہ کے لیے بولے، چپ ہو تو اللہ کے لیے چپ ہو، اگر وہ ذکر کرے تو اللہ ہی کا تذکرہ کرے۔“

○ اور ایک بزرگ نے عجیب الفاظ میں بات فرمائی کہ تقویٰ یہ ہے:

**أَنْ تَنْزَعَنَ سِرَكَ لِلْحَقِّ كَمَا تُنْزَعُنَ عَلَانِيَّتَكَ لِلْخَلْقِ**

”کہ تو اپنے باطن کو اللہ کے لیے اس طرح مزین کر لے جیے تو اپنے ظاہر کو خلوق کے لیے مزین کرتا ہے۔“

اب خلوق سے ملنا ہوتیاری کر کے جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جانا ہو تو لوگ نہادھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، صاف سترے ہو کر جاتے ہیں کہ جی میری میٹنگ فلاں صاحب کے ساتھ ہے۔ شادی کے موقع پر میاں نے بیوی سے ملنا ہوتا ہے تو دیکھو کیسے بن سنور کے ملتے ہیں۔ اٹڑو یوکے لیے جانا ہو تو کیسے صاف سترے ہو کر جاتے ہیں۔ تو جیسے خلوق کے ملاپ اور ملاقات کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے ہیں تو ایسے ہی اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔

خلوق تو پھرے پر میل دیکھئے کہ منہ دھویا ہوا نہیں تو اٹڑو یوں فیل کر دیتی ہے، قیامت میں تو اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھا ہے۔ اس نے دل پر میل دیکھی تو کیا ہے گا؟  
○ ہمارے حضرت خواجہ عبد الماک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

”تقویٰ کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا کہ جس کے اختیار کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آجائے۔“

○ مصری وَعِظَّيْدَةً فرماتے تھے:

”کہ دل کی تمباوں کو اگر مجسم کر دیں اور طشتري میں ڈال کے سر بازار پھرائیں تو کوئی تمبا بھی ایسی نہ ہو جس پر شرمندگی ہو۔“

○ اب اس کو مزید سمجھنا ہے تو ہم اپنے روزمرہ کے کئی کاموں میں اسے سمجھ سکتے ہیں۔ کئی کام ہیں جن میں ہم بڑے محاط ہوتے ہیں۔ او. جی! تم دس مہماں کا کھانا زیادہ بنادینا موقع پر شرمندگی نہ ہو، او. جی! ایئر پورٹ پر میں نے سات بجے پہنچا ہے To be on the safe side (احتیاطاً) پونے سات بجے پہنچ جاؤں گا۔ یعنی محاط کام کرتے ہیں۔ تو گویا:

”دین میں ٹوبی اون دی سیف سائڈ (محاط) ہو کر زندگی گزارنا، اس کا نام <sup>۱</sup> تقویٰ ہے کہ گناہ کے قریب بھی بندہ نہ پہنچے۔“

### تقویٰ کے ثمرات

اس تقویٰ کے بہت سے فوائد ہیں، آئیے قرآن مجید کی طرف ذرا توجہ کیجیے۔

ہر مشکل سے نجات:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں متqi بندے کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہوں اس کو ہر مشکل سے نکال دیتا ہوں۔

﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مُخْرَجًا﴾ (طلاق: ۲)

”جو اللہ سے ذرتا ہے اللہ اسکے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔“

آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، کسی پریشانی میں پھنس گئے، دشمنوں کے حسد میں پھنس گئے تو نکلنے کی آسان طریقہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔

دنیا دار لوگ بھی وعدہ کر کے بھاتے ہیں یہ تو پروردگار کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ (سورۃ النساء: ۲۲)

”اس سے پچی کس کی بات ہو سکتی ہے“

## کشاںش رزق:

دوسرافائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان ہی نہیں ہوتا

﴿وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (طلاق: ۳)

”رزق ایسی طرف سے ملتا ہے کہ بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا“

مارے ایک قریبی دوست ہیں، نیک آدمی ہیں، انہوں نے اپنے بہن کی شادی کی، کچھ کام گھر کے سینے تو ایک لاکھ درہم ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ سن کے ہمیں بھی حیرانی ہوئی کہ بوجھ میں دب گئے۔ اللہ کی شان، نیک بندے تھے، چھ مہینے میں سب قرضہ اتر گیا۔ پوچھا: کیسے ہوا؟ کہنے لگے مجھے بھی نہیں پتہ، ایسا کام اللہ نے بھیج دیا جس کی توقع ہی نہیں تھی اور اس سے اللہ نے چھ مہینے میں ایک لاکھ درہم نفع میں دے دیے۔ اللہ نکالتا ہے پریشانیوں سے، یہ جو ہم پریشانیوں میں گرے پڑے رہتے ہیں اصل میں اس کے پیچے ہمارے عملوں کی کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر تقویٰ اختیار کریں گے تو پروردگار عالم ہماری حفاظت فرمائیں گے۔

## کاموں میں آسانی:

دوسری آیت مبارکہ:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا﴾ (طلاق: ۳)

”جو تقویٰ اختیار کرے“ اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔  
کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کام توڑھی نہیں چڑھتے، ہوتے ہوتے رہ جاتے  
ہیں۔ کتنی دفعہ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی فائل اسباب پیدا ہی نہیں ہوتے، پنجی کے  
رشته دیکھنے آتے ہیں ویکھ کر خوش ہو کے جاتے ہیں دوبارہ ان کی طرف سے کوئی  
جواب ہی نہیں ملتا۔ یہ جو کام ہمارے مکمل نہیں ہوتے، مشکلات ہوتی ہیں، کام اسکے  
رہتے ہیں، یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا﴾ (سورہ الطلاق: ۳)

”جو تقویٰ اختیار کرے گا“ اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔  
متقیٰ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات دے گا۔  
﴿ثُمَّ نَبْعِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِهَنَّمُ﴾ (مریم: ۷۲)  
”پھر ہم متقیٰ لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ایسے ہی جہنم میں چھوڑ دیں  
گے۔“

تو تقویٰ سے دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ آج  
کسی بندے کو کہیں کہ بھتی ! میں تمہاری فلاں ملک کے کسی بڑے سے ملاقات کروا  
دیتا ہوں، کام آسان ہو جائیں گے تو وہ خوشی سے چھولانہیں سائے گا۔ اب یہاں  
پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کر لو تو تمہارے کاموں کو میں سنواروں گا۔  
عجیب بات ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تقویٰ بہترین زندگی گزارنے کا  
سب سے آسان ترین طریقہ ہے، اللہ نے اس کو اوجھل کر دیا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے  
کہ بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور حقیقت میں جتنا چھوڑتے ہیں، پروردگار اس سے

زیادہ لوٹاتا ہے۔ چھوڑتے ہم ٹھوڑا ہیں وہ پروردگار واپس زیادہ لوٹاتا ہے، وہ تو ایک کے بد لے دس دیتا ہے، یہ کم از کم ورنہ ستر گنا اور اس سے بھی زیادہ۔

﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (آل عمران: ۲۶۱) (البقرة: ۲۶۱)

### عطائے بصیرت:

ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوے کی وجہ سے انسان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، اپنے پرانے کی پہچان ہو جاتی ہے۔

﴿إِن تَتَقَوَّلَ اللَّهُ يَعْلَمُ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ (الأنفال: ۲۹)

”اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا“  
فرقان ایک نور ہے جو قوت فارقه یعنی فرق میں الحق والباطل کی تمیز عطا کرتا

ہے۔

### محبوبیتِ الہی:

تقویٰ کا ایک اور فائدہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، آج یہوی سنورتی ہے کہ خاوند کو اچھی لگوں کیا بندہ نہیں سنو رکتا کہ میں اپنے پروردگار کو اچھا لگوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ﴾ (آل عمران: ۲۶)

”اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے“

تو تقویٰ اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیے۔

### معیتِ الہی:

اور متقویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے۔

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (توبہ: ۳۶)

”جان لو کہ اللہ تعالیٰ متین کے ساتھ ہیں“

رزق میں برکت:

پھر متین بندے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ رزق میں جب برکت ہو تو غیر کی محتاجی نہیں رہتی فرمایا:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۹۶)

”اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے“  
تو ایسے لوگوں کو بشارت

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (سورہ یونس: ۶۲، ۶۳)

”وہ جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی“

زيادت علم:

ایک فائدہ اور کہ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ علم میں پختگی گھرائی اور زیادت علم عطا فرماتے ہیں۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ كُمُ اللَّهُ﴾ (سورہ البقرۃ: ۲۸۲)

”تقویٰ اختیار کرو اللہ تمہیں علم سکھائے گا۔“

## قبولیت اعمال:

متقی بندے کے عمل اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتے ہیں۔

(۱۷۸) ﴿إِنَّمَا يَتَّقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدہ: ۲۷)

”بے شک اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے“

## اللہ کی پشت پناہی:

بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کچھ پر اثر ہو گیا، یوں پر اثر ہو گیا، بیٹھی پر اثر ہو گیا، جادو کر دیا، آسیب ہو گیا۔ اور جی! کسی نے کچھ کر دیا ہے، کار و بار کسی نے باندھ دیا ہے اور کئی کہتے ہیں کہ جی حاسد دین تو ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے۔ اگر ایسی صورت حال ہے تو عملیات والوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا عمل کریں، اللہ مخالفوں سے، حاسدوں سے حفاظت فرمائیں گے۔

دو کام کرنے پڑتے ہیں، فرمایا:

(۱۹۰) ﴿إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّلَوَ لَا يَضْرُبُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

”اگر تم صبراً غتیر کرو اور تقویٰ اختیار کرو ان کے کمر تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے“

اس سے بڑی گارثی اور کیا ہو سکتی ہے، کسی کے پیچھے جانے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ صبراً اور تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ بندے کی پشت پناہی فرماتے ہیں، کوئی اس کا بال بھی پکانہ نہیں کر سکتا۔

## ایک سبق آموز حکایت:

ایک حکایت لکھی ہے۔ دو دوست تھے، ایک کا نام اچھا سمجھ لیں اور دوسرے

دوست کا نام بگڑا سمجھ لیں۔ تو اچھے میں بہت اچھائی تھی اور بگڑے میں بڑی برائی تھی۔ وہ اچھائی سے بعض نہیں آتا تھا، یہ برائی سے بعض نہیں آتا تھا۔ تھے یہ بچپن کے دوست۔ اچھا ہر وقت اس کے ساتھ اچھائی کرتا اور بگڑا ہمیشہ اس کے ساتھ برائی کرتا۔ اللہ کی شان، ایک دفعہ یہ اچھا کہیں گیا اور واپسی پر ایک ٹیلہ تھا، وہاں سو گیا۔ دو پرندے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جب اللہ چاہتے ہیں تو پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیتے ہیں۔

**(بِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مِنْطَقَ الطَّيْرِ)** (نمل: ۱۶)

”اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے“

تو اللہ نے اسے بولی سمجھا دی۔ پرندے بول رہے تھے، ایک نے کہا کہ تم کوئی خبر سناؤ، کہنے لگا: بادشاہ کی بیٹی آج کل بیمار ہے اور اس کی بیماری کا علاج یہ جڑی بولی ہے جو یہ ساتھ گلی ہوئی ہے۔ تو دوسرے پرندے نے کہا کہ تم خبر سناؤ! اس نے کہا کہ جس ٹیلے پر ہم بیٹھے ہیں اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس بندے نے یہ سن لیا۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں، چنانچہ وہ جڑی بولی لا کے دی اور بادشاہ کی بیٹی کو اللہ نے شفادے دی۔ بادشاہ نے بڑا انعام دیا، جب انعام لے کر یہ جارہا تھا تو راستے میں بگڑا بھی مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ جی آپ کی برکت سے۔ یعنی آپ سے تسلک ہو کر میں باہر نکلا تھا، اللہ نے سب بنادیا۔ اس نے کہا: اچھا! میری وجہ سے تو بادشاہ سے کہو کہ مجھے بھی کوئی اچھا عہدہ دے دے۔ اس نے سفارش کر دی، بادشاہ نے اسے اچھا عہدہ دے دیا۔

اب تھا تو یہ بگڑا ہوا، ایک دن کہیں بات چلی تو بگڑے نے کہا کہ جی وہ بادشاہ کی

بیٹی کا علاج کرنے والا وہ تو ہمارے گاؤں کا میراں ہے۔ کسی نیچی ذات کا نام لیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے معمولی آدمی ہو تو نے تو میری بیٹی کے اوپر تجربہ کیا؟ اگر دوائی ٹھیک نہ پہنچتی تو نقصان ہوتا۔ حکم دیا کہ اس کو سزا دو۔ لو جی اچھے صاحب گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم معمولی آدمی تم نے جرأت کیے کی میرے گھر کے کسی بندے کی علاج کرنے کی، یہاں تو بڑے بڑے اطباء کو قدم رکھنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اچھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت! ویسے تو میں بڑا حکیم تھا لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا ثبوت دو؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو اونہ لے گیا، اس نے جا کر شیلہ دھایا کہ اس کو کھدا وادا! اس کے نیچے میرا خزانہ ہے۔ اللہ کی شان کہ خزانہ نکل آیا۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی ہی کر دی کہ یہ اتنا امیر ہے، خزانے کا مالک ہے۔

اب جب پھر اس کی بگڑے سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ بگڑے نے کہا اچھا! بادشاہ کی بیٹی سے شادی! اس نے کہا کہ آپ ہی کی برکت ہے۔ تو یہ حکایت اس لیے سنائی کہ آپ کو کسی سے انجمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کریں اور تقویٰ اختیار کریں حاسدین آپ کے لیے جو کریں گے اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اُنہی اللہ سیدھی کر دے گا، کیا پر بیٹائی کی بات ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے۔ ﴿إِنْ تَصْبِرُواْ وَ تَقْفُواْ﴾ اگر تم صبر کرو تقویٰ اختیار کرو ﴿لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۲۰) ان کے کر تھا را بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اسے کہتے ہیں:

”جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے“

## تقویٰ کی اہمیت

اس تقویٰ کی بہت اہمیت ہے اس لیے کہ یہ ولایت کے لیے شرط ہے۔  
ارشاد فرمایا:

**﴿إِنْ أُولَيَا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا هُنَّ الظَّالِمُونَ﴾** (سورۃ الانفال: ۲۳)

”اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو تنقی ہوتے ہیں“

تقویٰ کے بغیر ولایت کی سیر ہی پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔

## قرآن میں تقویٰ کا پیغام:

اس لیے قرآن اور حدیث میں تقویٰ کے اختیار کرنے کی بہت ترغیب دی گئی۔  
اور یہ بھی سمجھ لیں کہ صرف ہمیں کہا گیا بلکہ پوری امتوں کو یہی پیغام دیا  
گیا۔ ذرا قرآن مجید میں نظر ڈال لیں۔

نوح عليه السلام کا پیغام بھی یہی تھا، فرمایا:

**﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾** (شعراء: ۱۰۰)

تو ہود عليه السلام کا پیغام بھی یہی تھا:

**﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾** (شعراء: ۱۰۲)

صالح عليه السلام کا پیغام بھی یہی تھا:

**﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾** (شعراء: ۱۰۳)

شعیب عليه السلام کا بھی پیغام یہی تھا:

**﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾** (شعراء: ۱۰۴)

یاس علیہ السلام کا بھی پیغام یہی تھا:

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ ﴾

(صافات: ۱۲۲-۱۲۳)

مویٰ علیہ السلام کا بھی پیغام یہی:

﴿قَوْمٌ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ﴾ (شعر: ۱۱)

اور پھر ہمیں بھی یہی حکم ہوا۔ سینے قرآن عظیم الشان! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے

ہیں:

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيَأْكُمْ أَنِّي أَتَّقُوا

اللَّهَ﴾ (آلہ النساء: ۱۳۱)

کیا شاہانہ انداز میں خطاب فرماتے ہیں:

تم سے پہلے والوں کو یہی نصیحت و صیت کی اور تمہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ ﴿أَنِّي أَتَّقُوا

اللَّهَ﴾ تقویٰ اختیار کرو۔

جب بات کی اہمیت ہو تو بندہ ایک بات کو دو دفعہ کہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ایک فقرے میں دو مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ آیا ہے سینے:

﴿إِنَّمَا أَلْيَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَيْرٍ وَأَتَّقُوا

اللَّهَ﴾ (الحضر: ۱۸)

ایک ہی فقرہ ایک ہی آیت ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ دو دفعہ آیا ہے اور تقویٰ کی اہمیت کیسے بیان کی جائے؟

متقنی سب سے زیادہ سعادت مند:

چنانچہ سیدنا علی رضا (علیہ السلام) فرمایا کرتے تھے:

سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا الْأَسْخِيَاءُ وَسَادَةُ النَّاسِ فِي الْآخِرَةِ

الْأَقْرِيَاءُ

”کر دنیا میں سب سے زیادہ سعادت مند تھی ہوتے ہیں اور قیامت کے دن  
اقریاء سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔

متقیٰ سب سے زیادہ شرف والے:

اسی تقویٰ کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ورنہ تو سب انسان ایک جیسے  
ہیں۔

سُبْلَ سَيِّدُنَا عِيسَى عَلَيْهِ الْكَلَمُ آئُ النَّاسِ أَشْرَفُ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف کون  
ہے؟

وَقَبْضَ لَبَضْتَيْنِ مِنْ تُرَابٍ

”انہوں نے دو مٹھیاں مٹی کی اٹھائیں“

پھر فرمایا:

آئُ هَذِينَ أَشْرَفُ؟

”ان دو میں سے کون سی بہتر ہے؟“

انہوں نے کہا کہ جی دونوں ایک جیسی ہیں۔

لَمْ جَمِعُهُمَا وَ طَرَحَهَا وَ قَالَ

”پھر انہوں نے جمع کر کے اس کو پھینک دیا“

اور کہا:

(النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ تُرَابٍ وَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ أَكْمَمُ)

”بندے سارے کے سارے مٹی سے پیدا ہوئے، ان میں سے اللہ کے ہاں

عزت والا وہ ہے جو مشرق ہے۔“

قرآن مجید میں کھول کر بتا دیا گیا:

﴿هُنَّا أَنْجَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣)

”اے انسانو! ہم نے تمہیں مردوں گورت سے پیدا کیا اور تمہاری تو میں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، بے شک اللہ نے نزدیک تم میں

سے وہ ہے جو زیادہ پرہیز گا رہے“

اولیاء کا مکالمہ:

چنانچہ ایک مرتبہ بہت سارے اولیاء ایک محفل میں جمع تھے، آپس میں مکالمہ کر رہے تھے کہ نجات کس سے ہوتی ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

مَا نَجَّا مِنْ نَجَّى إِلَّا بِصَدْقِ الْجَاجِ

جس نے بھی نجات پائی جب بھی نجات پائی تو سچ کی وجہ سے نجات پائی  
ان کے ذہن میں یہ آیت سمارک تھی ؟

﴿وَعَلَى الشَّالِكَةِ الَّذِينَ حُلِقُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَلَّنَوْا أَنَّ لَا مُلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ (توبہ: ١١٨)

”اور ان تینوں پر جن کا معاملہ ملتی کیا گیا تھا میں باوجود اپنی فرانچی کے شکر ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر، تو گئیں اور انہوں نے جان یا کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں،“

کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سچ بولا تو اللہ رب العزت نے نجات دے دی۔

جریری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے، انہوں نے کہا:

**مَا نَجَى مَنْ نَجَى إِلَّا بِمُرَاغَةِ الْوَقَاءِ**

”جو انسان بھی نجات پایا جب بھی پایا وہ وفا کی رعایت کرنے کی وجہ سے پایا“

کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھیں نجات دوں گا:

**﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمُبْيَتَاقَ﴾** (الرعد: ۲۰)

”عقلمند ہیں) وہ لوگ جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں“

عطابِ ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پیش ہوئے تھے، وہ فرمائے گئے:

**مَا نَجَحَ مَنْ نَجَى إِلَّا بِتَحْقِيقِ الْحَيَاةِ**

”جس نے بھی نجات پائی جب بھی پائی حیا کی وجہ سے پائی۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

**﴿إِنَّمَا يَعْلَمُ بَأَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ﴾** (بلق: ۲۰)

”کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہیں ہیں“

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تھے، فرمائے گئے:

**مَا نَجَحَ مَنْ نَجَى إِلَّا بِالْحُكْمِ وَالْقَضَا**

”جس نے بھی نجات پائی جب بھی پائی اللہ کے حکم اور قضا کی وجہ سے پائی“

ان کے ذہن میں آیت تھی:

**﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتَ لَهُمْ مِنَا الْحَسْنَى﴾** (الأنبياء: ۱۰)

”جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی وہ اس سے دور رکھے جائیں گے“  
کہ اس آیت میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔

ایک بزرگ نے کہا کہ ہاں اللہ سنتا ہے نجات دے دیتا ہے۔

”مَا نَجَّا مِنْ نَجْعَلُ إِلَّا بِمَا سَبَقَ لَهُ مِنَ الْإِجْتِبَاءِ“

اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (سورۃ الانعام: ۸۷)

”اور انہیں پر گزیدہ بنایا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی“

تو رویم ﷺ میں تھے انہوں نے آخری بات کہی، فرمانے لگے:

مَا نَجَّا مِنْ نَجْعَلُ إِلَّا بِصَدْقِ التَّقْوَى

”جس نے نجات پائی جب بھی نجات پائی تقویٰ کی وجہ سے“

اور آیت پڑھی:

﴿ثُمَّ نُعَذِّبُ الَّذِينَ أَنْتَوْا﴾ (سورۃ مریم: ۷۲)

”پھر ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا“

تو دیکھیے! اللہ رب العزت بندے کو ایسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقویٰ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔

اویلاء کی قدر مشترک:

جهاں اور بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔

اسی لیے ہمارے سلف صالحین اور جتنے بھی اسلاف تھے سب کے سب مقنی تھے۔ یہ وہ صفت ہے جو سب میں مشترک تھی۔ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو قدر مشترک ہوتی ہیں۔ جیسے حیا کہ سارے سارے کے سارے اولیا وہ لوگ جن کے اندر حیا تھی، آج تک کوئی بے حیا انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکا۔ اسی طرح تقویٰ بھی مشترک ہے، جو بھی ولی بنا اس میں تقویٰ والی زندگی موجود تھی۔

### سلف صالحین کے تقویٰ و افعال

آپ کو اپنے اکابر کے تقویٰ کے بارے میں کچھ واقعات کو سناتے ہیں تاکہ تقویٰ کی حقیقت واضح ہو جائے کہ شریعت پر احتیاط کے ساتھ چنانا کہ غلطی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔

### نبی علیہ السلام کی کھانے میں احتیاط:

اللہ کے پیارے حبیب ﷺ کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں کئی مرتبہ گھر آتا ہوں بھوک گئی ہوتی ہے اور اپنے کمرے میں بستر پر کھجور پڑی دیکھتا ہوں تو میں اس لیے اٹھا کر نہیں کھاتا کہ ممکن ہے یہ صدقہ کی کھجور پڑی ہوئی ہو اور میرے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں، بھوک بھی ہے اور اپنے گھر کے بستر پر کھجور پڑی ہے تو گھر کے بندے کی ہوئی نا لیکن احتیاط انہیں کھاتی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔

### حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ:

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دفعہ بھوک گئی ہوئی تھی غلام نے کھجور دی کہ جی یہ کھائیں! لے کر کھائی، پھر پوچھا کہ بھی؟ تمہیں ملی کہاں سے؟ اس نے کہا کہ جی میں زمانہ جہالت میں جھاڑ پھونک کی تھی، ان لوگوں

کے اوپر میرا احسان تھا۔ میں نے ان کے قریب سے گزر اتو ان کے ہاں شادی تھی، تو انہوں نے مجھے کھانا دے دیا، یہ وہ ہے۔ فرمایا تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ اپنے طلق میں انگلی ڈالی اور قتے کر دی تاکہ جو پیٹ میں لگا ہے نکل جائے۔ پھر خیال ہوا کہ ابھی نہیں نکلا تو بہت سارا پانی پی لیا، حد سے زیادہ پانی پی کے پھر انگلی ڈال کرتے کی تو پانی کے ساتھ پورا میدہ خالی ہو گیا۔ یہ کیوں کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ شبہ والا کوئی لقمہ میرے بدن کا جزو بن جائے۔

### حضرت عمر بن عبد اللہؓ کا تقویٰ:

سیدنا عمر بن عبد اللہؓ کے پاس خوش بو آئی، تقسیم کرنی تھی، یہوی نے کہا کہ میں کر دیتی ہوں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اجازت نہ دی۔ اس نے کہا کہ میں احتیاط کروں گی کہ میرے ہاتھ کو خوبصورت نہ لگے، فرمایا: تقسیم کرتے ہوئے خوبصورت سو گھوگھی وہ بھی خوبصورت استعمال ہو گا، اس لیے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری یہوی بیت المال کی خوبصورت تقسیم کرے، اتنا فائدہ بھی نہیں چاہتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے تقسیم کیا اور تمہرے سی خوبصورت گئی، جب تک عمر بن عبد اللہؓ نے رگڑ رگڑ کے خوبصورت کو صاف نہیں کر لیا اس کی جان نہیں چھوڑی۔ احتیاط اور یہی تقویٰ تمام صحابہؓ کی زندگی میں تھا۔

### حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا تقویٰ:

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اسی پر مل کیا، ایک مرتبہ بیت المال سے خوبصورت ہوئی تھی تو آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ اُگ بے مصرف تقسیم نہ کریں۔ مگر نوگوار نے دیکھا کہ آپ نے ناک پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ ناک کیوں پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا: خوبصورت استعمال اُس سو گھنہا ہی تو ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ شاید کھانے پینے میں ہوتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کھانا پینا تو زندگی کا ایک عمل ہے، تقویٰ کا تعلق زندگی کے تمام اعمال کے ساتھ ہے۔ معاملات میں، معاشرت میں، لین دین میں، ہر چیز میں انسان محتاط زندگی گزارے۔ کوئی بات ایسی نہ کرے جو خلاف واقعہ ہو۔

### حضرت قاسم بن محمد ﷺ کا تقویٰ:

ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فقہائے سبعہ مدینہ میں سے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنے گھر، اپنے جگرے میں پالا تھا۔ وہ ان کی مریبی تھیں، اور فیض انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پایا تھا۔ اپنے زمانے میں ان جیسا فقیہ اور متینی کوئی دوسرا نہیں تھا۔ محدثین نے یہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ ایک اور بزرگ تھے سالم بن عبد اللہ، وہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ بھی بڑے متینی اور پرمیزگار تھے مگر علم میں ان کا اتنا بلند مقام نہیں تھا جتنا قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ ایک دیہاتی آگیا اور پوچھنے لگا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا سالم بن عبد اللہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سالم بن عبد اللہ کا مکان وہ ہے۔ تو علام نے لکھا ہے کہ احتیاط دیکھو کہ بات کوٹاں دیا۔ اگر کہتے کہ میرا مقام بڑا ہے تو یہ عجب ہوتا، یہ حرام ہے اور اگر کہتے کہ ان کا مقام اوپر چاہے تو یہ جھوٹ ہوتا۔ نہ جھوٹ بولنا نہ عجب کی بات کی دوسری لائے پر لگا دیا کہ صالح بن عبد اللہ کا مکان وہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بات چیت میں بھی اتنی احتیاط کرتے تھے۔

### حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تقویٰ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ ایک

مرتبہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بہت زیادہ خرچ کر دیتی ہیں۔ ان کے خرچ کر دینے کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ روزے سے تھیں، میں ہزار کے قریب درہم کہیں سے ملے مدینہ کی بیواویں کو تیمبوں کو بلا یا اور سارے خرچ کر دیے۔ اسی نشست میں باندی آئی، اس نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ مجھے دے دیں تاکہ افطاری کے لیے کچھ بندوبست کروں۔ فرمایا: تو نے پہلے نہ بتایا۔ اتنا زیادہ خرچ کرتی تھیں جو ملتا تھا خرچ کر دیتی تھیں۔ تو عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھا کریں تو محبت میں انہوں کہہ دیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ جب آپ نے سنا تو کہا کہ اچھا میں عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ سے بات ہی نہیں کروں گی، قسم کھائی۔ تو عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ کی جان پہ بن گئی، بڑی منت سماجت کی۔ آخر میں تھی، خالہ تھی، تodel موم ہو گیا۔

اب قشم کا کفارہ ہوتا ہے دس بندوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنے پر اکتفانہ کیا، وقت کے ساتھ ساتھ پچاس غلام آزاد کر دیے پچاس غلام آزاد کیے۔ پھر رویا کرتی تھیں کہ کاش میں قشم نہ کھاتی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ ایک کے بد لے پچاس آزاد کر دیے، ڈر پھر بھی دل میں ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟

شریعت کا پردہ تو زندوں سے ہوتا ہے کوئی عورت قبر کے سامنے سے گزرے تو پردہ تو کوئی نہیں۔ تقویٰ دیکھیے ام المؤمنین عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مجرے میں چلی جاتی تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب وہاں تدفین ہوئی تو چلی جاتی تھیں کہ ان کے والد ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کمرے میں بغیر پردے کے جانا چھوڑ دیا۔ کتنا حیا ہو گا، کتنا تقویٰ ہو

گا۔ ام المؤمنین کی طہارت اور پاکیزگی کو اگر سمجھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی پاکیزگی کا تصور کرو کیونکہ پروردگارِ عالم کا قانون ہے ﴿الْطَّيَّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ﴾ (سورۃ التور ۲۶: پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔

### سیدہ فاطمۃ الزہراؓؑ کا تقویٰ:

سیدہ فاطمۃ الزہراؓؑ خاتون جنت، طبیعت کے اندر اتنا حیا اور اتنی پاکیزگی تھی کہ بات چلی کہ سب سے بہتر عورت کون؟ کسی نے کہا کہ یہ، کسی نے کہا کہ یہ، علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تو خاتون جنت نے جواب دیا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھے سکے۔ چنانچہ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میری روح نکل جائے تو میرا جتازہ رات کو اٹھانا اور فرمایا کہ سمجھو کی تھیں اس لے کر میری چار پاؤں کے اوپر اوٹ بنا لیتا تاکہ غیر محرم مرد کو جسامت کا پتہ نہ چل سکے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔

چنانچہ ازواج مطہرات امہات المؤمنینؓ کے بارے میں عام لکھا ہے کہ جب گھر کے سخن میں پیش تھیں تو دیوار کی طرف رخ کر کے پیش تھیں، عادتاً دیوار کی طرف رخ کر کے پیش تھیں کہ دروازہ کھلنے سے اچانک کسی کی نظر نہ پڑ سکے، نہ کسی کی نظر ہم پر پڑے نہ ہماری نظر کسی پر پڑے۔

### امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کے واقعات:

آئیے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے تقویٰ کے بارے میں کچھ واقعات سن بیجیے۔

❶ ایک مرتبہ انہوں نے ایک باندی خریدنے کا ارادہ کیا۔ دس سال تک اپنے

شاگردوں سے مشورہ کرتے رہے کہ کس علاقے کی باندی سو فیصد شریعت کے مطابق جائز ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرط پوری نہ ہوتی ہو اور وہ باندی بن گئی ہو۔ دس سال تک چھان پھٹک کرتے رہے، باندی خریدنے کے لیے۔

⊗ حسن بن صالح رض کہتے ہیں کہ میں نے کسی فقیر کو ابوحنیفہ رض سے زیادہ اپنی جان اور علم کی حفاظت کرتے نہیں دیکھا۔

⊗ یزید بن ہارون رض فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار محدثین اور فقهاء عالم سیکھا میں نے ابوحنیفہ رض جیسا پرہیز گار کوئی نہیں دیکھا۔

⊗ علی بن حفص رض ان کے شاگردوں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رض نے میرے والد کے ساتھ شرکت پر تجارت کی ہوئی تھی کہ امام ابوحنیفہ رض نے پیسہ ڈال دیا تھا۔ اور میرے والد نے کہا تھا کہ میں بیخنے کا کام سنپھال لوں گا۔ کیونکہ حضرت ہر وقت علمی کام مصروف ہوتے تھے ایک کپڑا ایسا تھا جس پر کچھ تھوڑا سا داغ تھا تو امام ابوحنیفہ رض نے فرمایا کہ ویکھو جب یہ بیخنا ہوتا گا اب کو پہلے دکھانا کہ یہ عیب ہے، بعد میں قیمت طے کرنا۔ اس نے کہا کہ مجی بہت اچھا۔ اللہ کی شان! ایک دن انہوں نے کپڑا بیچا اور یہ بات ذہن میں نہ رہی، بھول گئے۔ امام صاحب نے دکان میں چکر لگایا، پوچھا کہ بھائی فلاں کپڑا انظر نہیں آرہا۔ کہا کہ مجی نہیں دیا۔ عیب بتا دیا تھا؟ مجی بھول گیا۔ امام صاحب نے پورے مال کی رقم تیس ہزار دینار بنتی تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور اس کو تجارت سے بھی الگ کر دیا۔ آج کے دور میں واقعی ان کاموں کو سمجھنا بالکل مشکل کام ہے۔

⊗ کپڑے کی دکان تھی، عصر کے بعد بند کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ مجی عصر کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ ایک دن ظہر کے بعد بند کر کے آگئے۔ کسی نے کہا مجی ظہر

کے بعد بند کر کے آگئے؟ فرمایا آج آسمان پر بادل ہیں، روشنی پوری نہیں، گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو زائد قیمت کا سمجھ کے خرید کرنے لے جائے۔ اس امت میں تجارت یا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھائی یا پھر امام عظیم ابو حنفہ رضی اللہ عنہ نے۔ دیکھو تجارت یہ ہوتی ہے۔

◎ خارجہ رضی اللہ عنہ ان کے ایک شاگرد تھے حج پر جانے لگے، اس کی ایک باندی تھی بڑی خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ حج پر مجھے چار پانچ ماہ لگیں گے تو میں اس کو امام صاحب کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیا، کہہ بھی دیا کہ جی کوئی کام وغیرہ ہو تو اس کو حکم دے دینا۔ چار مہینے کے بعد آئے تو کہنے لگے کہ جی میری باندی نے خدمت کیسی کی؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ چار مہینے وہ کام کرنے والی گھر میں رہی لیکن امام صاحب نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ باندی کو گھر لے کر آیا، باندی سے پوچھا کہ بتاؤ ان کے گھر رہی ہے امام صاحب کو کیسا پایا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم! میں نے زندگی میں ایسا پرہیز گار بندہ نہیں دیکھا۔

◎ امام محمد رضی اللہ عنہ ایک نواب کے بیٹے تھے۔ تو نواب صاحب انہیں لے کر آئے کہ حضرت! میں ان کو آپ کا شاگرد بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے دیکھا کہ بچہ ذہین و نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے میرے پاس بھیجا کرو لیکن اس کو کپڑے معمولی پہنایا کرو کہ خوبصورت بچہ ہے، لباس خوبصورت ہو گا تو فتنہ زیادہ ہو گا۔ تو شرط لگائی کہ اس کو معمولی لباس پہنایا کرو۔ محمد آتے رہے، حضرت ان کو پیٹھ کے چیچھے بٹھاتے تھے۔ بے ریش بچے کو سامنے بٹھا کے نہیں پڑھاتے تھے، پیٹھ پیچھے بٹھاتے تھے۔ ایک دن سبق پڑھانے لگے تو آگے دیوار تھی، اس پر جو سایہ پڑا تو دیکھا کہ بڑی بڑی

دائری ہے، جی ان ہو کے پیچھے دیکھا۔ پہلی نظر وہ تھی جو نواب صاحب کے لانے پر پڑی تھی، اب دوسری نظر یہ تھی کہ جب امام محمد علی اللہ کی دائی چکلی تھی اور وہ بالغ ہو پکے تھے، امر درناظر نہیں ڈالی۔

⦿ وقیع بن جراح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک عورت کپڑا لائی کہ جی میں پہنچنے آئی ہوں، آپ خرید لیں۔ فرمایا کتنے میں پہنچوگی؟ اس نے کہا کہ ایک سورہم میں۔ فرمایا: نہیں کپڑا ازیادہ قیمتی ہے، یہ خریدنے والا کہہ رہا ہے۔ آج ہماری خریدنے کی میکنیک ہوتی ہے کہ کہتے ہیں یہ کس کام کی چیز ہے، میں یہ خرید کے احسان کروں گا تیرے اوپر۔ (Marketing Technics) گفتگو کا ہنر استعمال سودے بازی کا فن اور (Negotiation Technics) کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ قیمتی ہے، اس نے کہا اچھا دوسو درہم دے دیں۔ فرمایا: قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ تین سورہم دے دیں، فرمایا نہیں، قیمتی ہے۔ اس نے کہا: جی پھر چار سورہم۔ فرمایا: گھر کے مرد کولاو۔ گھر کے مرد کو لے کر آئی، امام صاحب نے اس کپڑے کو سونہیں پانچ سورہم کے بدلتے میں خردرا۔ مومن تاجر ہوتا کتنا پیارا تاجر ہوتا ہے۔

⦿ امام ابو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے علم ضائع ہونے کا ذرہ نہ ہوتا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا بوجھ میرے سر پر اور مزے لوگوں کے ہوتے ہیں، اتنا محتاط تھے۔ چنانچہ حاکم وقت نے بلایا اور کہا کہ آپ چیف جسٹس ہیں، فرمایا میں تو نہیں بنتا۔ اس نے کہا: اچھا ابو حنیفہ تم فتویٰ نہیں دیا کرو گے، ٹھیک ہے نہیں دوں گا، واپس آگئے۔ کئی دن گزرے گھر کی کسی عورت نے مسئلہ پوچھا کہ جی مسئلہ بتائیں، فرمایا کہ میرے بیٹے عمار سے

پوچھ لو۔ میں حاکم سے عہد کر پکا ہوں کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ وہاں نہ حاکم تھا نہ سنتے والا، معاملہ تو خدا کے ساتھ تھا، لیکن قول دیا ہوا تھا، اس کا پاس تھا۔ اس کی برکت سے اللہ نے حاکم کے دل کو زرم کیا اور اس نے شرط ختم کر دی۔

⦿ عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ بکریاں تھیں جو کسی نے لوٹیں تو وہ کوفہ کی بکریوں میں شامل کر دیں، خلط ملط ہو گئیں، پتہ نہیں چلتا تھا۔ امام صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کسی نے کہا کہ سات سال۔ سات سال کے لیے امام صاحب نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کیا پتہ یہ وہ بکری ہو جو چوری کی تھی۔

⦿ یزید بن ہارون روایت کرتے ہیں کہ آپ کے شاگرد تھی بن زائد گلی میں سے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ امام صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کہا: حضرت! دو پہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، اس دیوار کے سائے میں آجائیں۔ فرمایا: اس مالک مکان کو میں نے قرضِ حسنہ دیا ہوا تھا، آج اس نے لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، میں لینے آیا ہوں۔ میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہونا اپنے لیے اس کو سو دس بھتتا ہوں، میں اتنا بھی فائدہ نہیں لینا چاہتا۔

### علماء و مشائخ کے تقویٰ کے واقعات:

⦿ ..... اور یہی بات آگے آپ کے شاگردوں کے اندر تھی۔ چنانچہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو حاکم وقت نے چیف جسٹس بنادیا تھا۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بے لام فیصلہ کرتے تھے، فریقین میں سے کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، پوری زندگی گزار دی۔ جب موت کا وقت آیا تو امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں

میں آنسو تھے۔ شاگروں نے پوچھا کہ حضرت! روکیوں رہے ہیں؟ فرمایا: پوری زندگی میں نے کسی بندے کی رعایت نہیں کی، ایک مرتبہ مقدمہ آیا ایک طرف نصرانی تھا اور ایک طرف مسلمانوں کا بادشاہ ہارون رشید تھا۔ جب مقدمہ آیا تو میں نے اس مقدمے میں ہارون الرشید کو نصرانی کے ساتھ کھڑا کیا اور مقدمہ سننے کے بعد نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا، مگر میرے دل میں اس وقت خیال اٹھا تھا کہ کاش یہ فیصلہ ہارون الرشید کے حق میں ہوتا۔ میں اس خیال پر رورہا ہوں کہ کہیں اللہ میرے اس خیال پر میری پکڑ نہ فرمائے۔ یعنی بادشاہ کو سامنے کھڑا کیا اور نصرانی کے حق میں فیصلہ بھی دیا مگر دل میں خیال آگیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہارون الرشید کے حق میں ہوتا۔ فرمایا اس کی وجہ سے روتا ہوں کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ فرمادے۔

◎..... عبد اللہ ابن مبارک رض ایران کے شہر مرو میں رہتے تھے، کسی سفر میں شام چلےئے۔ وہاں کسی سے قلم لے لیا، دینا بھول گئے اور واپس آگئے۔ ایران آکر خیال آیا کہ یہ قلم تو میں نے ادھار لیا تھا۔ پھر اس قلم کو لوٹانے کے لیے ایران سے شام کا دوبارہ سفر کیا اور قلم اس کو واپس کیا۔

◎..... محمد بن سیرین اور عون بن عبد اللہ دونوں حضرات جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا، ابن سیرین آگے تھے انہوں نے دیکھا کہ کھجور کا تنا پڑا ہوا ہے، انہوں نے اس پر پاؤں رکھا اور گزر گئے، پھر عبد اللہ آکر کھڑے ہو گئے، جوتے اتارے اور پانی کے اندر سے گزرے۔ تو اس وقت محمد بن سیرین رض نے پوچھا کہ آپ نے پاؤں کیوں گیلے کیے؟ فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے راستے کی وجہ سے نہیں رکھا بلکہ کسی کا پڑا ہوا ہے اور اس کی اجازت نہیں تھی میں بغیر اجازت اس کے اوپر پاؤں کیسے رکھ لیتا۔ بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنے

سے اتنا پرہیز کرتے تھے۔ آج تو مال غیمت کی طرح سمجھتے ہیں، قرب قیامت کی علامت میں سے ہے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی یہ علامت ہے کہ جو لوگ امانت کو مال غیمت کی طرح استعمال کریں گے۔

●..... بازیز پدر بسطامی رضی اللہ عنہ سفر میں تھے تو کپڑے دھوئے، اب لٹکانے کا مسئلہ آیا تو ساتھی نے کہا کہ جی یہ باغ کی دیوار ہے، یہاں لٹکا دیتا ہوں۔ فرمایا: اجازت نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار پر کپڑا کیسے ڈالیں؟ اس نے کہا کہ جی یہ گھاس ہے اس پر ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا: بھی! یہ جانوروں کے چڑنے کے لیے ہے ہم کپڑا ڈال کر اس کو ڈھانپ دیں گے تو ان کے حق میں کوتا ہی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ جی درخت پر لٹکانا تاکہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہاں سے یہ سبق ملا کہ وہ بزرگ کوئی کام کرتے شاخ پر لٹکانا تاکہ ٹوٹنے نہ پائے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کام کے ہوئے ذہن میں ہر وقت یہ رکھتے تھے کہ کیا یہ جائز ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے کوئی میرا گریبان کپڑے نہ والابن جائے؟

●..... چنانچہ امام و قیع رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا کہ جی آپ نے امام عمش رضی اللہ عنہ کے درس حدیث میں میری سیاہی استعمال کی تھی، مجھے اس کا بدله دے دیں۔ تو ایک دینار کی تھیلی پوری دے دی اور فرمایا: بھی! یہ تھیلی لے لو مجھے معاف کرو! قیامت کے دن تو مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ دوات استعمال کرنے کے بدله دینار کی تھیلی دے دی تاکہ ادھر ہی کام سمیٹ لیں۔

●..... ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو تین دن فاقہ رہا تین دن کے بعد تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے تو گھر والوں نے کہا کہ کسی سے قرض لے لیں۔ قرض میں آٹا لے لیا۔ اب گھر والوں نے جلدی سے آٹا گوندھا اور روٹی بنا کے سامنے رکھی کہ

کھائیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ اس کو کہاں پکایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے صالح بن احمد اس کا الگ تندور رہا، وہ جل رہا تھا تو ہم نے روٹی جلدی میں دیں وہیں لگا دی۔ فرمایا: وہ سرکار کی نوکری کرتا ہے، لہذا اس کے تندور کی آگ سے پکی ہوئی روٹی بھی میں نہیں کھاؤں گا، تین دن کے فاتحے کے بعد روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔

◎..... امن سیرین عوْضُ اللَّهِ كَمَ مَلِكَ تَحْتَهُ، ایک میں سے چوہا نکل آیا اور نکالنے والا بھول گیا کہ کون سا مٹکا تھا؟ فرمایا: اب چالیس کے چالیس اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو میرے استعمال کے قابل نہیں ہیں۔

تمام تابعین میں سے جس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے آپ کو تقویٰ کے یہ واقعات ایسے ہی نظر آئیں گے

### عورتوں میں تقویٰ:

یہ تومروں کے واقعات تھے عورتوں کے اندر بھی تقویٰ کے عجیب و غریب واقعات ہیں، وہ بھی تقیہ نصیہ زندگی گزارتی تھیں۔

◎..... چنانچہ امام احمد بن حبیل عوْضُ اللَّهِ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ جی میں چھت کے اوپر رات کو بیٹھے کے سوت کاتھی ہوں، اپنی گزر اوقات کے لیے۔ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں؟ پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ایک رات چاند کی روشنی میں سوت کات رہی تھی کہ اچانک حاکم شہر اس گلی سے گزرا تو حاکم کے لوگوں نے روشنی کے لیے شمعیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ تو ماحول میں روشنی زیادہ ہو گئی تھی مجھے دھاگہ صاف نظر آنے لگ گیا، میں دھاگہ کر ڈالتی رہی، جب وہ گلی سے گز رگیا اور روشنی کم ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں نے تو حاکم شہر کی روشنی سے فائدہ اٹھایا۔ لہذا اس نے پوچھا کہ جتنا دھاگہ اس روشنی کے وقت میں کاتا وہ صدقہ کر دوں یا پوری رات میں جتنا کاتا وہ

صدقہ کر دوں؟ امام صاحب نے کہا کہ ساری رات میں جتنا دھاگا کاتا وہ سارا صدقہ کر دو۔ عورت چلی گئی۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان! یہ کیا فتویٰ دیا کہ پوری رات میں جتنا دھاگہ کاتا سب صدقہ۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے جا کر دیکھو کہ یہ کس گھر کی عورت ہے؟ وہ پیچھے چلا، پہتہ چلا کہ وہ بشرخانی ﷺ کے گھر داخل ہوئی، ان کی وہ بہن تھی۔ آ کے اس نے والد صاحب کو بتایا تو امام احمد بن حنبل ﷺ نے فرمایا اس گھر کی عورتوں کی یہی شان ہے کہ حرام سے بالکل پاک صاف مال استعمال کریں اور پوری رات کے مال کو اللہ کی راستے میں صدقہ کر دیں۔ عورتیں اتنی متقدی تھیں اس کو تفویٰ کہتے ہیں۔

◎ آج دعورتیں اگر سوکن ہوں نا تو بس ایک جنگ لگی ہوتی ہے۔ ایک کو دوسرا میں اچھائی نظر نہیں آتی دوسرا کو اس میں اچھائی نظر نہیں آتی، پوری زندگی یہ معاملہ چلتا ہے۔ جن عورتوں کے دلوں میں تقویٰ تھا، ان کا ایک واقعہ سن لیں تاکہ بات آگے بڑھائیں۔

ایک تاجر تھا، شادی کی زندگی گزار رہا تھا مگر کام ایسا تھا کہ اس کو اپنے مال کی خریداری کے لیے شہر جانا پڑتا تھا اور دو دو تین مہینے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ جو لوگ اجنس کا کام کرتے ہیں، ان کو دیپاں توں میں جانا پڑتا ہے، وہاں خریداری کرنے کے لیے دو تین مہینے جو فصل کے ہوتے ہیں وہیں گزر جاتے ہیں۔ وہاں یہ شخص دو تین مہینے رہتا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مجھے اس جگہ پر گھر بنالینا چاہیے تاکہ میں سکون کی زندگی گزار سکوں۔ گھر بنالیا۔ گھر کے بعد گھروالی کا خیال آتا ہے، چنانچہ اس نے وہاں ایک اور نکاح کر لیا، لیکن اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ میں اپنی پہلی بیوی کو نہیں بتاؤں گا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھے۔ اور اس نے شادی سے پہلے ہی اس دوسرا عورت سے

بات کر لی کہ بھائی میں نے رہنا وہاں ہے، سال کے تین مہینے کے لیے یہاں آنا ہے، اگر یہ شرط منظور ہے، اپنا حق دیتی ہو تو نکاح کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے گھر مل رہا ہے، مجھے مال مل رہا ہے، مجھے خاوند کا سایہ مل رہا ہے، میں اس پر راضی۔ نکاح کر لیا۔ اب جب واپس گھر گئے تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، نیکو کار بھی تھی، اس نے تھوڑی دیر میں پچان لیا کہ بد لے بد لے میرے سر کا نظر آتے ہیں مگر چپ ہو گئی، کہا کچھ نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس عورت کو یقین ہوتا گیا کہ معاملہ ہے کوئی۔ حتیٰ کہ اس نے ایک بڑھیا کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پمیے دوں گی، جا اور وہاں جا کر ذرا خبرا کہ معاملہ کیسا ہے؟ وہ بڑھیا کی اور اس نے ایک دن میں معلومات کر لی کہ جناب کا گھر بھی ہے، نکاح بھی کیا ہوا ہے، گھروالی بھی ہے، تین مہینے یہاں گزارتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اس نے آکے بیوی کو بتا دیا۔ اب بیوی رنجیدہ تو ہوئی مگر خاموش ہو گئی۔

اللہ کی شان دیکھیں کہ سال گزرا دو گزرے، ایک دن اس تاجر کو ہارت ایک ہوا اور یہ اچانک فوت ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ رشتے داروں نے کہا کہ وراثت تقسیم کرو تو میراث والوں نے اس عورت کا بھی حصہ نکالا، تو وراثت میں اس کو کوئی بوریاں نہیں۔ اب جب اس کو بوریاں مل گئیں تو اس نے دل میں سوچا کہ بیوی میں اکیلی تو نہیں، مجھے تو معلوم ہو گیا کہ ایک اور بھی ہے، رشتے داروں میں سے کوئی نہیں جانتا، لہذا مجھے اس بیوی کا بھی حصہ نکالنا چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ امانت کیا تھی؟ صداقت کیا تھی؟ تقویٰ کیا تھا؟ چنانچہ اس نے اپنے مال کے دو حصے کیے اور اس بڑھیا کو بلا یا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اس عورت کے پاس جاؤ جو میرے خاوندی دوسری بیوی ہے اور یہ آدھا مال اس کو جا کر دے دو اور بتا دو کہ تمہارا خاوند فوت ہو گیا ہے، میں اس کے

بد لے تمہیں اتنی مزدوری دوں گی۔ بڑھیا نے وہ مال لیا اور دوسرا سے شہر پہنچی تو اس عورت کو جا کر اس کے خاوند کے مرنے کی خبر دی تو وہ رونے لگ گئی، غم ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جود دیوریاں ہیں، گٹو ہیں یہ سب دیناروں سے بھرے ہوئے ہیں یہ اس کی وراثت میں سے ہیں، آپ کا حصہ ہے، اس کی بیوی نے بھجوایا ہے۔ تو بڑی حیران ہوئی کہ اچھا کہ پہلی بیوی نے وراثت میں میرا حصہ نکال اکے مجھے بھجوایا ہے۔ تو اس نے اس خورت سے کہا کہ اس کو میری طرف سے بڑا شکر یہ ادا کرنا اور جب واپس جاؤ تو یہ مال میری طرف سے اس پہلی کو دے دینا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے گئی کہ وہ جب آخری مرتبہ یہاں سے جانے لگا تھا تو جانے سے ایک دن پہلے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ یہ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔

دین جب زندگیوں میں ہوتا ہے تو دنیا پھر جنت بن جاتی ہے۔ قرآن جائیں اسلام کے حسن پر، خوبصورتی پر، یہ کتنا پھر بندے کو پاک صاف بنا دیتا ہے، صحیح معنوں میں فرشتہ صفت بنا دیتا ہے۔ زندگی میں شیطانیت ہوتی ہے، نفسانیت کی وجہ سے، اس لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان مجالس میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پڑتے تو چلے کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیا تھی اور آج ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں؟

### اکابر علمائے دیوبند کے واقعات:

قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علمائے دیوبند کی زندگی کے واقعات سن لیں کہ ان کی قبولیت کا راز کیا تھا؟ اللہ کے ہاں کیوں قبول ہوئے؟ ان کی قبولیت کا راز ان کا اخلاص اور ان کا تقویٰ تھا۔

◎..... چنانچہ حضرت نانو توی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ طلباء علماء ان کو دعوت کے لیے مجبور کر کے لے جاتے اور کھانا کھلا دیتے، اگر حضرت کو کبھی شک ہو جاتا کہ

اس بندے کی آمدی ٹھیک نہیں تو واپس آ کر قے کیا کے تھے۔ تاکہ کھانا جزو بندہ بنے

◎..... حضرت گنگوہی علیہ السلام کا دادا اپنے وقت کا بڑا نواب تھا، اس کی بڑی جائیدادیں تھیں۔ تو حضرت گنگوہی علیہ السلام نے جب علم حاصل کر لیا اور تیس سال کی عمر ہوئی تو تمام زمینوں کی وسٹاویزات ملکوں میں تاکہ پتہ چلے ہماری ہیں بھی یا نہیں۔ تو اکثر اپنی تھیں لیکن ایک سودے میں تھوڑا کسی کا حصہ بنتا تھا۔ حضرت نے اپنی جائیدادوں کو بچ دیا حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیور کو بچ کر ان تمام حق والوں کو ان کا حق دے دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ ہو۔

◎..... حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری علیہ السلام صدر مدرس تھے اور صدر مدرس ہونے کی وجہ سے جوان تنامی تھی اس نے بیٹھنے کی جگہ پڑ رامونا قالین پھوادیا۔ جب تک حضرت درس دیتے، اس پر بیٹھتے اور درس دینے کے بعد وہاں سے اٹھ کر دوسرے فرش پر بیٹھ جاتے کہ اب مجھے اس کے استعمال کی اجازت نہیں۔

◎..... حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی علیہ السلام جب سفر پر جانے لگتے اور گاڑی پر بیٹھ جاتے تو اگر کوئی بندہ بعد میں آتا کہ حضرت! اس شہر میں فلاں بندے کے لیے میرا رقعہ خط لیتے جائیں تو رقہ نہیں پکڑتے تھے، فرماتے تھے کہ میں نے سواری والے سے ڈیل کر لی ہے اب سواری والے سے پوچھو، اجازت دے گا تو وزن بڑھاؤں گا ورنہ اتنا بھی وزن نہیں بڑھاتا۔

◎..... میاں جی نور محمد جنحنا نوی علیہ السلام کے پاس ایک قاری صاحب آئے، کسی نے کہا کہ جی یہ اشعار بڑے اچھے لمحے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جی میں نے تو نہیں سننے۔ انہوں نے کہا کہ جی اشعار سننے میں کیا رکاوٹ؟ فرمایا کہ لوگ مجھے

کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں اور اچھی سریلی آواز سے اشعار سننے کو بھی بعض علمانے بھی غنا کہا ہے اور غنا بلا مزا امیریہ بھی جائز نہیں۔ اس لیے میں نہیں سنتا تاکہ امامت میں حرج نہ آجائے۔

◎..... ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رض کے ایک مرید ناپینا تھے۔ انہوں نے کسی سے قرض لینا تھا، چنانچہ وہ کئی میل کا سفر پیدل کر کے قرض لینے والے کے پاس گئے، گلی میں سے ڈھول کی آواز آرہی تھی، پوچھنے لگے کہ یہ ڈھول کہاں نج رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت جس گھر میں جانا ہے وہاں تو نہیں اس سے دو چار گھر آگے جا کر وہاں نج رہا ہے۔ فرمائے گے: اچھا! پھر دوبارہ آؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ ناپینا ہیں آپ کئی دن کی مشقت اٹھا کے ہیں آئے تو اب آپ لیتے جائیں، فرمایا نہیں! جب میں گلی میں داخل ہوں گا تو لوگ کہیں گے تاکہ پیر قریشی صاحب کا مرید ڈھول سن رہا تھا۔ ان کو کیا پتہ کہ میں ساتھ والے گھر میں قرضہ لینے آیا ہوں، میں اس گلی میں نہیں جاتا۔ اس کو کہتے ہیں: اتَّقُوا مَوَاضِعَ التَّهْمَةِ (تہمت کے موقع سے بچو)

◎..... حضرت مفتی محمد شفیع رض مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میں مفتی عزیز الرحمن محدث رض کی خدمت میں کئی مرتبہ گیا، میں نے ان کی مجلس میں برے سے برے بندے کی بھی کبھی بات ہوتے نہیں دیکھی کہ غیبت نہ ہو جائے۔ وہ کسی تھرڈ پرسن کی گفتگو کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ میرے سامنے اس کی بات کریں۔

◎..... حضرت شیخ الحدیث رض فرماتے ہیں کہ میرے والد مولانا رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کھانا پکاتے تھے، سردیوں میں وہ آتے ہوئے ٹھنڈا ہو جاتا، جم جاتا، تو طلبہ مدرسے کا جو تندور تھا، گیز رہتا، اس کے قریب رکھ دیتے تھے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے جمنے نہ پائے۔ آگ کے اوپر نہیں رکھتے تھے، آگ سے فاصلے پر جہاں ہر ایک کو گرمی

لگتی ہے وہاں پر رکھ دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے مدرسے میں پیسے جمع کرواتے تھے کہ میں نے مدرسے کی آگ سے فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ مظاہر العلوم کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو مدرسین مہمان نوازی کرتے تھے، تو کھانا اپنے گھر سے منگوائے کھایا کرتے تھے۔

○ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ریل پر سفر کر رہے تھے تو حارث پور سے کانپور تک کسی نے گئے کی گھڑی دے دی۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں بھتی! یہ مقررہ حد سے زیادہ وزن ہے، میں نہیں لے کے جاتا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے گارڈ کو کہہ دیا ہے، گارڈ بھی آگیا، اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں چیک تو میں نے کرنا ہے، آپ لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آگے جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی فلاں جگہ تک تو میری ڈیوٹی ہے آگے جس کی ڈیوٹی ہے اس کو کہہ دوں گا، وہ بھی نہیں پوچھے گا۔ فرمایا: نہیں میں نے اس سے بھی آگے جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی فلاں اشیش سے آگے تو ریلوے لائن ہی نہیں ہے اور آگے کہاں جاتا ہے؟ فرمائے گئے کہ میں نے روزِ محشر اللہ کے سامنے جاتا ہے، وہاں اگر بچوا سکتے ہو تو ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، آپ ریل گاڑی کے اچھے ڈبے میں سفر کرتے تھے تو اس کی ٹکٹ خریدتے تھے، اگر کوئی مرید ملنے آتا تھا تو پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ نچلے درجے کی ٹکٹ خرید کر اوپر کے درجے میں مت آ کر بیٹھو۔ آج ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسی ہیں۔

○ حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ میں جمیعت کے وفتر میں تشریف لائے تو ناظم صاحب نے اچھا کھانا کھایا، نماز پڑھنے کا وقت آیا تو انہوں نے نماز کے لیے نئی نئی چٹائیاں پچھائیں۔ تو حضرت نے مولانا حفظ الرحمن صاحب سے فرمایا کہ ماشاء اللہ، اللہ نے نئی چٹائیاں مدرسے میں دے دیں؟ انہوں کہا جی نہیں، یہ ہماری تو نہیں ہیں، فلاں



تاجر آپ کا مرید ہے اسے جب پتہ چلا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے اپنی دکان سے نئی چٹائیاں بھیج دی ہیں، استعمال کر کے پھر واپس کر دیں گے۔ تو حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا، چٹائی سے نیچے اتر گئے، فرمایا: مولا نا وہ ان چٹائیوں کو غیر مستعمل کر کے بیچے گا اور ذمہ دار میں بنوں گا، گناہ گار میں ہوں گا، میں اس پر نماز ہی نہیں پڑھتا۔

○.....حضرت مولا نا احمد علی رض محدث شہار پوری، نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے۔ علمائے دیوبند میں ان کی انوکھی شان ہے، حدیث میں ایسے کامل بہت کم محدثین گزرے ہیں، یہ چوتی کے چند علمائیں سے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دوست کو ملنے کے لیے گلکتہ گئے، دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ جی میرے بہت سارے رشتہ دار آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا: اچھا کوئی نصیحت فرمادیں تو حضرت نے نصیحت کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حضرت کا مدرسہ ہے تو کچھ چندہ دے دیں۔ بہت چندہ ہوا اور وہ چندہ لے کر مدرسے آئے اور ناظم صاحب کے حوالے کیا۔ ناظم صاحب نے کہا کہ جی اتنا زیادہ چندہ تو کوئی سفیر بھی نہیں لے کے آتا جتنا چندہ آپ لے کے آئے اور آپ نے خرچے کی کوئی چٹ نہیں دی کہ میرا اتنا خرچہ ہوا ہے۔ فرمایا کہ سفر میں نیت دوست کو ملنے کی تھی اب میرے لیے سفر کا خرچہ لینا جائز نہیں ہے۔

اللہ کے ہاں قبولیت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، یہ تقویٰ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے علمائے دیوبند کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائی۔

### مشائخ نقشبند کے تقویٰ کے واقعات:

ہمارے مشائخ کے حالات پڑھ کے دیکھیے ہر ایک کی زندگی میں آپ کو تقویٰ کی کہانیاں ملیں گی۔

◎..... خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی طاہری حیثیت امیرانہ نہیں تھی، تھوڑی سی زمین تھی، خود ہل چلاتے تھے، کاشت کرتے تھے، گندم ہوتی تھی جو سارا سال چلتی تھی مگر حضرت نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے گھر میں پچکی لگائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت! اتنی گندم تو نہیں ہوتی کہ آپ کو گھر میں پچکی لگانے کی ضرورت پڑتی۔ تو فرمایا کہ جب باہر کی پچکی میں گندم پینے کے لیے بھوائی جاتی ہے تو جو پہلے پیسوائی بندے نے گندم ہوتی ہے اس کا آثارہ جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے آئے میں کسی کا اتنا بھی آٹا ملے۔

ہمارے دماغ جس کا سوچ بھی نہیں سکتے ان بزرگوں کی سوچ تقویٰ کی وجہ سے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کو قوّۃ فارقد کہتے ہیں، دل بتادیتا ہے۔

◎..... امام العلماء الصلحاء حضرت عبدالملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندو لوگ گھمی کا کام کرتے تھے، یعنی خرید و فرخت وہ کرتے تھے۔ تو حضرت مارکیٹ کا گھمی استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ حضرت کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام حضرت نے رکھا ہوا تھا گھمی والے مولوی صاحب۔ ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ان سے صرف حضرت گھمی خریدتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں گائے بھیں رکھی ہوئی تھی، ہننوں کو دھو کے پھروہ دھلے برتن میں دودھ نکالتے تھے، اس دودھ سے گھمی بنتا تھا اور وہ حضرت کو بیچتے تھے۔ اس لیے ان کا نام رکھا ہوا تھا گھمی والے مولوی صاحب۔ بازار کا گھمی اس لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ کیا معلوم جو استعمال کروں وہ کسی ہندو کے ہاتھ کا بنا ہوا ہو۔ ان کو تو پا کی ناپا کی کاپڑتے ہی نہیں۔ سفر میں گھمی ساتھ ہوتا تھا، کھانا بنا نہ ہوتا تھا تو اپنا بناتے تھے، کوئی دعوت پر بلا تھا تو اس کے دسترخوان پر اپنا کھانا کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بھئی آجائوں گا حکم تسلیم لیں کھانا اپنا کھاؤں گا۔

◎.....خانیوال کے علاقے میں آم بہت اچھی نسل والے ہوتے ہیں، لیکن آپ بازار کا آم نہیں کھاتے تھے۔ اہل خانہ پوچھتے تھے کہ یہ لگڑا ہے، یہ سندھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ انورٹور ہے، ذرا دیکھو یہ کتنا اچھا ہے؟ نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا: آج کل باغ والے پھل آنے سے پہلے بیچ کر لیتے ہیں اور اگر جنس سامنے موجود نہ ہو تو بیچ چاہز نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ بیچ باطل ہوتی ہے لہذا اس کی وجہ سے آم یا کوئی ایسا پھل ہی نہیں کھاتے تھے، اچار جس میں آم پڑا ہوا ہو وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ چنانی استعمال نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس میں کھٹی کی جگہ آم نہ ڈالا ہوا ہو۔ اتنا احتیاط کرتے تھے معاملات میں۔

◎.....چنانچہ حضرت کی عادت تھی کہ سردی گری سر کے اوپر چھتری رہتی تھی۔ ایک ہاتھ میں عصا اور ایک میں چھتری، لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ سخت سردی کے موسم میں چھتری، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت! سردیوں کے موسم میں چھتری کی کیا ضرورت؟ فرمایا کہ میں اس کو سردی یا گرمی سے بچنے کی نیت سے ساتھ نہیں رکھتا بلکہ میں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ جس راستے سے گزر رہا ہوں اگر دائیں سے غیر محروم عورت آتی محسوس ہوتی ہے تو میں چھتری سے ہی پر دہ کر لیتا ہوں، باائیں طرف سے آتی محسوس ہوتی ہے میں ادھر سے آڑ بنا لیتا ہوں میں غیر محروم عورت کے کپڑے پر بھی نظر نہیں ڈالتا۔ اب سوچیے کہ غیر محروم سے کتنا ان کو پر ہیز ہوتا تھا، اسی تقویٰ کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدحی، اللہ نے ان کے سینوں کو روشن کر دیا تھا، زندگیوں میں اعمال سے برکت ڈالی اور ان کے کام کو اللہ نے قبولیت عطا فرمادی۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان اکابر کے راستے پر چلیں تو ہمیں آج اس نئی زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا پڑے گا۔

●.....حضرت مرحید عالم رض نے خود یہ واقعہ سنایا، فرمائے گلے کہ میری الہیہ مجھے وضو کروار ہی تھیں، پانی ڈال رہی تھیں، میں وضو کر رہا تھا، تو وضو کا پانی ڈالنے میں ڈرا کچھ کی سی ہوئی تو میں نے غصے میں دلکھ کر کہا کہ دلکھتی نہیں۔ وہ خاموش رہی اور پانی ڈالتی رہی، جب وضو کر لیا تو میں نے سر پر عمامہ باندھا، مسجد کی طرف چلا کہ فجر کی نماز کی امامت کروانی تھی۔ ابھی مسجد کے دروازے پر پہنچا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی آپ جائیں گے اور امامت کے مصلے پر کھڑے ہوں گے اور گھر میں آپ نے یہوی کو خواجواہ ایسے ڈانتا کہ اس کا دل دکھی ہوا۔ فرمایا کہ میں نے مسجد میں پیغام بھیجا کہ جماعت کے لیے میرا انتظار کریں۔ میں گھر واپس گیا، اور الہیہ سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کا دل دکھایا آپ معاف کر دیں، الہیہ نے مسکرا کر کہا کہ نہیں میں نے تو حسوس نہیں کیا، تب میں مسجد میں لوٹ کے آیا اور آکر نماز پڑھائی۔

### اپنا موازنہ کریں

ہمارے اکابر کی زندگیاں یہ تھیں اور آج علماء کی یہیوں سے ڈرالوچھ کر دیکھیے کہ ان کا گھروں: س حال کیا ہے؟ چھوٹی سی بات پر غصہ میں آ جاتے ہیں اور پرپتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جلال والے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غصے کے مریض ہیں۔ بھتی! ہم جلال والے ہیں، تو اگر قیامت کے دن اللہ نے بھی جلال کا معاملہ کر دیا تو کیا ہو گا؟ یہ جو ہم نے گھر والوں کو اور بچوں کو ستایا ہوا ہے۔ بچوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں، قاری دراصل قہاری، معمولی معمولی باتوں پر اتنی سزا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے استاد ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوں گے اپنا حق مانگنے کے لیے پھر پتہ چلے گا۔

حدیث پاک میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ماتحت لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے جو وکیل ہوں گے وہ انبیا ہوں گے۔ فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان کا وکیل ہنوں گا اور ان ماتحت لوگوں کو ان کا حق لے کے دکھاؤں گا۔ اگر بچوں کے وکیل اللہ کے نبی اور پیوی کے وکیل اللہ کے نبی بن گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو کتنوں کے دل دکھائے، ہم نے کتنوں کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، قیامت کے دن کی تیاری اسی کا نام ہے کہ ہم ان سب جھگڑوں کو ادھر ہی سمیٹ لیں، معافی مانگ لیں، معاف کروالیں تاکہ قیامت کے دن کوئی سامنے نہ کھڑا ہو کہ اس نے میرا حق دینا ہے۔

### آخرت کی سکینگ مشین (Scanning Machine) :

جب ہوائی سفر کرتے ہیں تو ایئر پورٹ پر ایک مشین کے اوپر ہر مسافر کو گزرنا پڑتا ہے، اس کی جیب میں کوئی سکہ یا الو ہے کی چیز ہو تو وہ فوراً آواز آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہر میل والی چیز کو اپنے بیگ میں ڈال دیتے ہیں، جیب میں کچھ بھی نہیں رکھتے کہ جب گزرنے لگیں گے تو مشین بول پڑے گی۔ تو جب وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو قیامت کا دن یاد آتا ہے۔ اللہ وہ بھی تو دن ہو گا کہ ایک ایک بندہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ادھر بھی سکینگ مشین لگی ہو گی مگر وہ ہر بندے کے دل کو سکین کرے گی کہ گناہوں کے اثرات کتنے پڑے ہیں؟ کتنے بندوں کے دل دکھائے ہیں؟ جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہو گی اس کو کہیں گے کہ جاؤ سامنے تمہیں جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے اور جن کے گزرنے سے مشین بول پڑے گی پھر فرشتے ان کو روکیں گے اور کہا جائے گا:

﴿وَقُوَّهُمْ إِنَّهُمْ مُسْنُوْلُونَ﴾ (الصافات: ۳۲)

ان کو تو روک لیجیے، ہم نے ان کا ٹرائل کرتا ہے، جامہ تلاشی لینی ہے۔ یہ طالب علم صاحب، چھپی دوستیاں لگاتے تھے، روکوڑ را اس کو، ذرا پوچھ تو لیں ان سے۔ یہ نوجوان صاحب سیل فون کو ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے، کبھی اس کا منیج، کبھی اس کی کال، ہر ایک کو وہ کہتے تھے: میں آپ کو مس کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔  
ہر کال پر غیر محروم کو محبت کا پیغام دینے والا، ہم سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتا تھا

﴿وَقُفْوَهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُون﴾ (الصافات: ۳۲)

آج ہمیں بھی پوچھنے دو کہ کیسے زندگی گزار کے آیا۔ اس صوفی صاحب کو بھی روک لو! یا اپنی بیوی کو بٹک کر کے رکھتا تھا، گھر کے اندر پریشان کر کے رکھتا تھا، وہ اوپر سے میاں شیخ تھا اندر سے میاں کبھی تھا۔ وقفوہم روکوڑ را ان کو انہم مسئولوں ہم نے اس کا ٹرائل لینا ہے، تفتیش کرنی ہے۔ اگر قیامت کے دن کھڑا کر لیا گیا نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ تُوقَشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ))

”جس سے حساب لیا گیا بس سمجھو کہ اسے عذاب ہو گیا“

## آج اپنا محاسبہ کر لیں:

ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اپنی زندگی کو تقویٰ سے مزین کر لیں، تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ تہائی میں بیٹھ جائیں، اس بارے میں سوچیں! کس کی غیبت کی؟ کس کا حق مارا؟ کس کی چیز بغیر اجازت استعمال کی؟ کس کا دل دکھایا؟ سب سے معافیاں مانگ لیجیے۔ اس کے بغیر ولایت ہرگز نہیں مل سکتی۔

ابراجیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا و فرشتے آئے، وہ گفتگو

کرنے لگے کہ یہ کون؟ ایک نے کہا کہ ابراہیم ادھم ہے، اللہ نے اس کا ایک درجہ گھٹا دیا، دوسرے نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگا کہ اس نے بصرہ سے کھجور میں خریدی تھیں اور دکان دار کی ایک کھجور بیچ گئی تھی اور اس نے اپنی سمجھ سے اٹھا کے کھالی تو اس کی ولایت کا ایک درجہ کم کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے فوراً یاد آیا کہ ایسا ہوا تھا۔ اگلا دن آیا کھجور میں خریدیں اور اس دکاندار کو کھجور واپس کی۔ پھر بیت المقدس میں ساری رات عبادت کی، دو فرشتے نظر آئے، وہ گفتگو کر رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا: کھجور واپس کرنے کی وجہ سے اللہ نے ولایت کا درجہ بحال فرمادیا۔

ایک کھجور کی وجہ سے اگر ولایت کا درجہ گھٹ سکتا ہے، ہم نے تو کتنے لوگوں کے ساتھ برائی کی، زیادتی کی، کہاں کی ولایت؟ دور کی بات ہے؟ جب تک کے انسان اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا نہیں کرے گا، یہ رکاوٹیں رہیں گی۔ جیسے جانور کو باندھ دیا جائے، جانہیں سکتا، شیطان نے ہمیں نفس کی رسی کے ساتھ ایسے باندھ دیا کہ ہم اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں جن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ کاش! اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، آج ہم عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد مقاط زندگی گزاریں گے، پچھلے معاملات کا تصفیہ کریں گے اور آئندہ اللہ! آپ کے بندوں میں سے کسی بندے کا حق نہیں ماریں گے اور نیکی کے جو عمل آپ کے ساتھ ہیں تو اللہ آپ تو مہربانی فرمادینا، ہم آپ کو نیکیاں دکھانے کے قابل نہیں میرے مولیٰ! یہ تو آپ کی رحمت ہے اور آپ کی ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اگر آپ نے گناہوں کے اندر بوداں ہوتی تو آج کوئی ہمارے پاس بیٹھنا بھی بروادشت نہ کرتا۔ آج وقت ہے تیاری کر لیں ورنہ اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل کام ہوگا۔

چنانچہ مکران کا بادشاہ تھا۔ ایک بڑھیا کی گائے کو اس کے لشکر والوں نے ذبح کر



﴿إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّاهِرَاتُ  
أَتَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَوَّلُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾  
(توبہ: ۱۱۹)

## علماء کے لیے صحبت صلحائی کی اہمیت

بيان: محبوب العلماء اصلحائی، زبدۃ السالکین، سراج العارفین  
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم  
تاریخ: 19 جولائی 2010ء بروز موموار ۶ شعبان، ۱۴۳۱ھ  
مقام: جامع مسجد نسب مجدد الفقیر الاسلامی جنگ  
موقع: خصوصی تربیتی مجالس برائے علماء و طلباء (چوہی مجلس)

## اقتباس

وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جاہل صوفیا کے اعمال نے علماء کو بہکا دیا۔ علماء تباہ گز گئے کہ انہوں نے اس تصوف کو شجر ممنوعہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جی کیفیات کو چھڑو، بس اپنا ایمان بچاؤ! مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلباء عشق نبوی والی کیفیات میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ اور یہ اخبطاط، یہ زوال آج مدارس کی فضائیں نظر آتا ہے۔ تو اب وہی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دونوں چیزوں کا رشتہ بحال کیا جائے، خانقاہوں میں رہنے والے مدارس میں آکے علم سیکھیں اور مدارس میں رہنے والے خانقاہوں میں جا کر ذکر سیکھیں، تاکہ ان میں پھر وہی کمالات پیدا ہو جائیں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

## علمکے لیے صحبتِ صلحائی کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا اَمَّا بَعْدُ:  
 فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝  
 يٰاَيُّهَا الَّذِینَ امْنَوْا تَقُوَّا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ (توہر: ۱۱۹)  
 سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝  
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝  
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ  
 دو نعمتیں:

نبی علیہ السلام اس امت کو دو نعمتیں دے کر گئے، ایک کو کہتے ہیں تعلیماتِ نبوی اور دوسرا کو کہتے ہیں کیفیاتِ نبوی۔ علم بھی سکھایا اور علم کی کیفیت کیا ہوئی چاہیے صحابہ کو وہ بھی سکھائی۔ تو صحابہ کرام نے دو نعمتیں پائیں، تعلیماتِ نبوی بھی پائیں اور کیفیاتِ نبوی بھی پائیں، اس لیے صحابہ کرام کو ان کیفیات میں تھوڑا فرق محسوس ہوتا تھا تو فوراً کہتے تھے کہ ”نَافِقٌ حَنْظَلَةٌ نَافِقٌ حَنْظَلَةٌ“، ”ظالم منافق ہو گیا۔“ تو دو نعمتیں میں، تعلیماتِ نبوی، کیفیاتِ نبوی۔ تعلیماتِ نبوی کو علم کہتے ہیں اور کیفیاتِ نبوی کو ترکیہ کہتے ہیں۔

**علم کے ساتھ ترکیہ بھی ضروری:**

علم کی کیفیت سے تو آپ مافق ہیں، ہی ترکیہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر

علمِ مطلق پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی بھی ہو جاتی، علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا۔ اس کے پاس علم کی کمیت تھی، مقدار تھی لیکن باطنی مرض تکبر بھی ساتھ تھا جو اس کو لے ڈوبتا۔ تو علم کے باوجود باطنی مرض نے اس کو بر باد کر دیا۔ تو ثابت ہوا کہ باطنی امراض ہوں تو علم فائدہ نہیں دینا۔ اس لیے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بے عمل علماء کو فرمایا:

﴿كَمِيلٌ الْجِهَارٍ يُحِمِّلُ أَسْفَارًا﴾ (جع: ۵)

”یہ گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لا دا ہوا ہے۔“

فرمایا:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهَهُ هَوَىٰ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ (الجاثیة: ۲۳)

”کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنالیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گراہ کر دیا،“  
تو ترکیہ کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔

## پہلے مشائخ دونوں نعمتوں کے حامل تھے:

پہلے زمانے میں مشائخ ان دونوں نعمتوں کے حامل اور کامل ہوا کرتے تھے۔ ان کے پاس تعلیماتِ نبوی بھی ہوتی تھیں اور کیفیاتِ نبوی بھی ہوتی تھیں، لہذا شاگرد ان سے وہ دونوں چیزیں حاصل کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمال، وہ جامعیت باقی نہ رہی، مدارس بن گئے تو پھر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ جہاں سے لوگ تعلیماتِ نبوی سیکھتے اس کو مدرسہ کہا جانے لگا اور جہاں سے کیفیاتِ نبوی سیکھتے اس کو خانقاہ کہا جانے لگا۔ پھر بھی امت میں سینکڑوں سالی یہ شعبے اپنا کام

کرتے رہے۔ علم کے طالب مدارس سے علم پاتے تھے اور کیفیاتِ نبوی کے طالب خانقاہوں میں جا کر عشقِ الہی کی فتحت پاتے۔

### انحطاط کی وجہ:

وقت کے ساتھ ساتھ کچھ جاہل صوفیا کے اعمال نے علمائوں کو بہکا دیا۔ علمائنا بگڑ گئے کہ انہوں نے اس تصوف کو ٹھیک منوعہ سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جی کیفیات کو چھوڑو، بس اپنا ایمان بچاؤ! مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلباء عشقِ نبوی والی کیفیات میں کمزور ہوتے چلے گئے۔ اور یہ انحطاط، یہ زوال آج مدارس کی فضای نظر آتا ہے۔ تو اب وہی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان دونوں چیزوں کا رشتہ بحال کیا جائے، خانقاہوں میں رہنے والے مدارس میں آکے علم سیکھیں اور مدارس میں رہنے والے خانقاہوں میں جا کر ذکر سیکھیں، تاکہ ان میں پھر وہی کمالات پیدا ہو جائیں۔

### مشاہیر علماء مشائخ کی صحبت میں

چنانچہ پہلے وقت میں بڑے بڑے مشاہیر علماء اپنے وقت کے مشائخ کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھتے تھے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے ساتھ انقیاد و تواضع کا معاملہ علمائیں سے اماموں نے بھی کیا ہے۔

### امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ:

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا، یہ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ ہیں۔ دو سال ان کے ساتھ رابطہ ہا اور اتنا فیض ملا کہ آپ فرماتے تھے:

”لَوْلَا دُسَّنَاتِنَ لَهَلَكَ النَّعْمَانُ“

”اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا“

### امام مالک حَدَّثَ اللَّهُ

امام مالک حَدَّثَ اللَّهُ امام جعفر صادق عَلیه السلام کی صحبت میں بکثرت جایا کرتے تھے۔  
اس لیے ان دونوں کارنگ ایک جیسا تھا، اصول فقہ ان دونوں کے ایک جیسے تھے،  
لیکن پہلے امام ابوحنیفہ حَدَّثَ اللَّهُ نے بنائے۔

”لَتَبَعَّهُ مَالِكُ ابْنُ آنِسٍ“

”اور امام مالک حَدَّثَ اللَّهُ نے ان کی اتباع کی“

اس لیے آپس میں بہت زیادہ ممتازت ہے، شیخ تھے ناجن سے فیض ملا تھا۔

### امام شافعی حَدَّثَ اللَّهُ

امام شافعی حَدَّثَ اللَّهُ اپنے وقت کے ایک بزرگ تھے شعبان رائی حَدَّثَ اللَّهُ، شعبان  
ایک قبیلے کا نام ہے تو امام محمد شیباعی حَدَّثَ اللَّهُ وہ بھی اسی قبیلے کے تھے اس قبیلے کے  
بزرگوں سے انہوں نے فیض پایا۔

### ابوالعباس ابن شریح حَدَّثَ اللَّهُ

ابوالعباس ابن شریح حَدَّثَ اللَّهُ لغت کے امام گزرنے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا  
ہے کہ وہ جنید بغدادی حَدَّثَ اللَّهُ کی صحبت میں گئے تھے اور پہلے دن ان کی باتیں سن کر کہا  
کہ مجھے اس بندے کی باتیں سمجھ تو نہیں آرہیں لیکن اس کے کلام کی صولت اور شان  
اسی ہے کہ یہ باطل کلام میں نہیں ہو سکتی۔ لطافت میں بتا دیا کہ بات کرنے والے کوئی

صاحب جذب بزرگ ہیں۔

## امام احمد بن حنبل عَلِيٰ حَنْبَلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

امام احمد بن حنبل عَلِيٰ حَنْبَلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حضرت بشر حانی عَلِيٰ حَنْبَلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کی صحبت میں جاتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، لیکن ایک ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو فقط عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ دیکھو! میں عالم بکتاب اللہ اور بشر حانی عالم باللہ ہیں عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ پر فضیلت ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام احمد بن حنبل عَلِيٰ حَنْبَلَ سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت!

مَا الْإِخْلَاصُ

”اخلاص کیا ہوتا ہے؟“

فرمایا: هُوَ الْغَلَاصُ مِنْ آفَاتِ الْأَعْمَالِ

”اعمال کی آفات سے خلاصی پا جانا اس کا نام اخلاص ہے۔“

اس نے کہا: مَا التَّوْكِيلُ ”توکل کیا ہے؟“

فرمایا: الْتَّقْيَةُ بِاللَّهِ ”اللہ پر اعتماد کرنا“

اس نے کہا: مَا الرَّضَاءُ ”رضاء کیا ہے؟“

فرمایا: تَسْلِيمُ الْأَمْوَالِ إِلَى اللَّهِ

”اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو دینا۔“

اس نے کہا: مَا الْمُحَبَّةُ ”محبت کیا ہے؟“

فرمایا: اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب بشر حانی سے پوچھ لو۔  
جب تک علم کی بات ہوتی رہی، جواب دیتے رہے، جب احوال اور کیفیات کی بات  
ہو گئی تو پھر ان کے پاس بھیج دیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رض اپنے بیٹے صالح بن  
احمد کو ترغیب دیتے تھے کہ تم ان مشائخ کی صحبت میں جایا کرو!

### امام ابو داؤد رض

امام ابو داؤد رض اپنے وقت کے بزرگ ابو حفص حداد رض سے بیعت  
تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں کہ لوہا کو مٹتے تھے اور جب اذان کی اللہ اکبر ہوتی اگر ہتھوڑا  
سر کی طرف اٹھایا ہوا بھی ہوتا تھا تو لوہے کو نہیں مارتے تھے، رکھ دیتے تھے کہ اب  
میرے اللہ نے مجھے طلب فرمایا۔

### علامہ ابن حجر رض

علامہ ابن حجر رض بخاری شریف کے شارح ہیں۔ انہوں نے ایک وقت میں  
شیخ مدین سے ملاقات کی، توجہ کا اثر ایسا پڑا کہ بقیہ زندگی رابطہ ہی میں گزار دی۔

### امام رازی رض

امام رازی رض کی بیعت حضرت جمیل الدین ابکار رض کے ساتھ تھی۔

### شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری رض

شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری رض یہ بھی بخاری شریف کے شارح ہیں، معروف  
بزرگ ہیں، ان کے متعلق علامہ ذہبی رض لکھتے ہیں۔

**الْقَعُودُ مَعَ الصُّوفِيَّةِ فِي خَانُقَاهِ**

”کہ یہ صوفیوں کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھتے تھے۔“

### شیخ ابوالعباس عز الدین الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ

ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كَانَ قَدْ لَبِسَ خُرُقَةَ النَّصْوُفِ مِنَ السَّهْرِ وَرُدْيٍ

”کہ انہوں شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت پائی۔“

### شیخ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ

ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ماوراء النہر کے بڑے فقیہہ تھے۔

ذَهَبَ بِإِشَارَةِ شَيْخِهِ إِلَى بُخَارَاً وَاعْتَكَفَ هُنَا

”شیخ کے اشارے پر بخارا گئے، اعتکاف کیا،“

اور وہاں بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی۔

### ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ

صاحب پرانوار، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ایک قادری بزرگ شیخ

لبیین بن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی۔

### امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی نعمت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ

بعلی فارمدي رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے: ”میں نے باطنی

نعمت حضرت بعلی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔“

## علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی نسبت مولا نا خالد کر دی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ در مقام رکھنے والے، آج جس دارالافتاء میں جاؤ آپ کو ”شامی“، ان کی میز پر پڑی ملے گی۔ مسئلہ پوچھنے جاؤ جو پہلی کتاب اٹھائیں گے وہ شامی ہو گی۔ ایک طرف فقیہ بھی ہیں اور ایک طرف تصوف کے ایسے بزرگ بھی ہیں۔

## ملاظام الدین رحمۃ اللہ علیہ

ہم جو درس نظامی پڑھتے ہیں، اس کی قبولیت کا راز یہ ہے کہ ملاظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب درس نظامی ہیں۔ وہ ائمہ یا کے ایک گاؤں کے تھے۔ اودھ ائمہ یا کے ایک شہر کا نام ہے، وہاں کا ایک گاؤں تھا ”بانسا“۔ یہ اس گاؤں کے ایک غیر معروف بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان سے جا کر انہوں نے بیعت کی۔ ان کی دعائیں تھیں جن سے ان کو اخلاق ملا اور اخلاق کے سبب اللہ نے ان کے بنائے ہوئے، ترتیب دیے ہوئے کتب کے نظام کو قبولیت عطا فرمائی۔

## مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ

مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آپ شرح جامی پڑھتے ہیں، ان کی بیعت ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ خوجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔

## علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ

ایک اور بزرگ ہیں علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، درس نظامی والے طلباء ان

کو جانتے ہیں۔ علامہ سید شریف جرجانی رض کی بیعت ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ خواجہ علاء الدین عطار رض کے ساتھ ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، اپنے شیخ کے پارے میں:

وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُ حَقَّ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مَا لَمْ أَتِيْ فِي خِدْمَةِ الْعَطَّارِ  
”اللہ کی قسم! مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی جب تک کہ میں عطار کی خدمت میں نہیں پہنچا۔“

### شیخ عبد الحق محدث دہلوی رض

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رض محدث تھے۔ آج اقسام حدیث پڑھنے کے لیے انہیں کا وہ مقدمہ کام آتا ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ صحیح کیا ہے؟ مرفوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ فلاں کیا ہے؟ اتنے بڑے محدث! ان کی بیعت ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجه باقی باللہ رض کے ساتھ ہے۔

### قاضی شاء اللہ پانی پتی رض

بخارا میں فقیہ وقت حضرت قاضی شاء اللہ پانی پتی رض مفسر قرآن تھے، ان کی تفسیر مظہری عربی کی مشہور تفسیر ہے۔ بیان القرآن پڑھ لجیے یا معارف القرآن پڑھ لجیے، آپ کو ہر چند صفحوں میں تفسیر مظہری کا ریفرنس ملے گا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ حضرت مرتضیٰ جاناں رض سے ان کو اجازت و خلافت تھی، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے۔ صوفی اور شیخ وقت بھی تھے۔

## حضرت مولانا عبدالحیی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا عبدالحیی رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محلی، ان کی بیعت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔ اور آگے آئیے! حضرت مولانا قاسم ناؤتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی۔

### دیگر علمائے دیوبند رحمۃ اللہ علیہم:

اور ان کے بعد کے بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین احمد مدفی رحمۃ اللہ علیہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات نے بیعت کی تھی۔ تو دیکھیے! وہ تمام لوگ جن سے اللہ نے دین کا کام لیا، جنہوں نے ٹھوس کام کیا، یہ سب وہی تھے جو تعلیماتِ نبوی کے حامل بھی تھے اور کیفیاتِ نبوی کے بھی حامل تھے، مرنج المحرین تھے۔ ان سے اللہ نے دین کا کام لیا۔

### متعدد مشائخ سے اخذ فیض:

بلکہ بعض نے تو کئی کئی مشائخ سے فیض پایا۔ چنانچہ خواجہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے مقام الرجا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، مقام حیا شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پایا اور نسبت فردیت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔

ابوالعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف میں میرے استاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، فقہہ میں ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ، خویں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث میں ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نفس کی اصلاح کے لیے اتنے علوم کا ہوتا ہی کافی ہوتا ہے۔

## صحبت کی تاثیر:

اب دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء ہی مجھے جنہوں نے اپنے وقت کے مشائخ سے فیض پایا۔ قاضی شاء اللہ پانی پتی رض اپنی کتاب تحفۃ الصالحین میں لکھتے ہیں:

”بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متنق ہونا عقلناً محال ہے اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ جس کا ہر فر و تقویٰ اور علم کے باعث ایسا درج رکھتا ہے کہ اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگانا ناجائز ہے، ان لوگوں نے زبان قلم سے اور قلم زبان سے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے باطن میں ایک نئی حالت محسوس ہوئی۔ بے شمار حضرات نے تصدیق کی اور یہی چیز بہت سارے کمالات کا موجب ہے۔“

اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام ان لوگوں سے لیا جو ظاہری باطنی علوم کے جامع تھے، صدق اور اخلاص کا اثر ان کی تحریر اور تقریر میں آگیا تھا۔

حضرت اقدس تھانوی رض فرماتے ہیں، امت کی دو جماعتیں اللہ کی رحمت ہیں، ایک فقہا کی جماعت اور دوسری صوفیا کی جماعت۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ حکماء امت ہیں، چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُو مَعَ الصَّادِقِينَ) (توبہ: ۱۱۹)

”اے ایمان والواللہ سے ڈرو اور پھول کی صحبت اختیار کرو“

علامہ آلوی رض روح المعانی میں لکھتے ہیں:

”خَالِطُوهُمْ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَ كُلُّ كَرِيمٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي“

”کہ ان کے ساتھ اتنی مخالطت کرو اتنا موجلو کہ تم ان کی طرح بن جاؤ ساتھی  
اپنے ساتھی کی اتباع کرتا ہے“

تاکہ تم ان کی طرح بن جاؤ، رنگ چڑھ جائے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ  
پڑتا ہے۔ اسی طرح بندے کا رنگ بندے پر چڑھتا ہے۔

اب یہ جو خالط طو اہم ہے یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے خالط یخالط مخالطہ  
اس میں حانین کا فائدہ ہے۔ خاصیت ابواب میں پڑھتے ہیں کہ اس میں استفادہ اور  
افارہ دوسری ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے کے اوپر دوسرے بندے کی طبیعت کا اثر ہوتا

ہے۔

یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو  
تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں  
کہ میں جدھر سے گزر جاؤں آپ ان کو یاد آ جائیں۔ نبی ﷺ کی سنت میں  
ایسے رنگ جائے کہ بندہ جدھر سے گزر جائے لوگوں کو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام یاد  
آ جائیں۔

دوست، دوست کے دین پر:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْمَرءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلَيَنْظُرْ أَحَدُ كُمْ مَنْ يُخَالِطُ“

”بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر ایک یہ دیکھئے کہ وہ  
کس سے ملتا ہے“

ملکی قاری محدث اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:

لَأَنَّ الظِّيَاعَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّشَبِيهِ وَالْأُقْعَدِاءِ بِلِ الظَّبْعِ يَسْرِفُ  
مِنَ الظَّبْعِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي هَذَا“

”ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اتنی خاموشی سے چیز اخذ کر لیتی ہے۔ پہنچی نہیں چلتا،“

دریا کے کنارے میں بیٹھنے والے کی طبیعت کے اندر برودت آ جاتی ہے۔

آگ کے قریب بیٹھنے والے کی طبیعت کے اندر یغوضت آ جاتی ہے۔

اونٹوں کو چڑانے والے کی طبیعت میں ہٹ دھری آ جاتی ہے۔

گھوڑوں کی خدمت کرنے والے کی طبیعت اندر شجاعت آ جاتی ہے۔

بکریوں کے چرانے والے کی طبیعت میں عاجزی اور تواضع آ جاتی ہے۔

تو اگر ماڈی چیزوں کا اثر اور جانوروں کا اثر ہو جاتا ہے تو پھر انسانوں کا اثر کیوں  
نہیں ہو گا، اگر ان کی صحبت میں بیٹھیں گے۔

### نظر کا لگنا برق ہے :

دوسری حدیث مبارکہ ہے، اسماء بنت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے خدمت میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، خاوند کا نام لیا۔

اَفَاسْتَرْقِي لِهُمْ؟

”کیا میں انہیں کچھ پڑھ کے دم کر دیا کروں؟“

”فَالَّذِي نَعَمْ فَإِنَّهُ نَوْ كَانَ شَيْءٌ مُّسَابِقُ الْقُدْرِ لَتَسْبِقَ الْعَيْنِ“

”نبی ﷺ نے فرمایا: ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے“

جو سبقت کر جاتی ہے۔“

نظر میں اتنا اثر ہوتا ہے، اب سوچیے کہ جس نظر کے اندر عداوت تھی، دشمنی تھی، بعض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، وہ نظر اگر اثر کر جاتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت و محبت ہو، اخلاص ہو تو پھر وہ نظر کیوں اثر نہیں کرتی؟  
یہ جو اللہ والوں کی صحبت میں اثر ہوتا ہے یہ اصل میں ان کی نظر لگ جایا کرتی

ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا:  
الْعَيْنُ حَقٌّ ”نظر کا لگ جانا حق ہے“

### عارفین کی نظر:

ملا علی قاری رض اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

**كُنْتُ وَجَدْتُ هَذَا الْعَيْنَ نَظَرَ الْعَارِفِينَ**

”میں نے اس نظر لگنے کو عارفین کی نظر میں پایا“

پہلے تو بڑی نظر لگنے کا تذکرہ تھا اور جو اس کے مخالف چیز ہے وہ عارفین کی نظر ہے وہ بھی لگ جاتی ہے۔

**فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْثَرُ**

”وہ بھی اکثر ہوتی ہے“

**يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا** ..... کافر کو مون بنادیتی ہے

**وَالْفَاسِقَ صَالِحًا** ..... فاسق کو نیک بنادیتی۔

**وَالْجَاهِلَ عَالِمًا** ..... جاہل کو عالم بنادیتی۔

**وَالْكَلْبَ إِنْسَانًا** ..... اور کتنے کو انسان بنادیتی ہے

اب دیکھیں! اصحاب کہف کا ساتھ ملنے سے کتنے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، جو نعمت انسانوں کو ملنی تھی وہ اللہ اسے عطا کریں گے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لِكُلِّ شَيْءٍ مَعَادٌ وَمَعَادِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ»

(جمع الفوائد)

”ہر چیز کا خزانہ ہوتا ہے تقویٰ کا معادن عارفین کے دل ہوتے ہیں“

صحبت کے بغیر دین نہیں:

چنانچہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کو سینا ہے اس کا لب لباب یوں بیان کیا ہے کہ فرمایا:

..... لَا يَدْرِي إِلَّا بِالْعِلْمِ

”علم کے بغیر دین نہیں“

..... وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بِالْكِتَابِ

”اور کتاب کے بغیر علم نہیں“

..... وَلَا كِتَابَ إِلَّا بِمُرْأَةِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى

”اللہ کی مراد سمجھے بغیر کتاب نہیں۔“

..... وَلَا يَتَبَيَّنُ مَرَادُهُ إِلَّا بِسُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے اگر سمجھ سکتے ہیں تو نبی کی سنت سے۔“

..... وَلَا يَتَضَعُ السُّنْنَةُ إِلَّا بِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ

”اور سنت کی وساحت نہیں ہو سکتی سوائے کلامِ فقہا کے۔“

جو حدیث کے سمجھنے والے ہیں۔

تو حدیث کہتے ہیں نبی ﷺ کی بات کو اور فقہ اس بات کی سمجھو کو کہتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ

وَلَا يُفْهِمُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ إِلَّا بِالْأُنْصَبَاغِ.....

کلامِ فقہا کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ رنگ نہ چڑھے (صِبغَةُ اللَّهِ) وہی لفظ ہے یہ اللہ کا رنگ (تو رنگ چڑھے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔

وَلَا يُلْوِحُ إِلَّا نَصَبَاغُ إِلَّا بِالْتَّزْكِيَةِ

اور رنگ لائٹ نہیں مارتا، روشنی نہیں دیتا سوائے تزکیہ کے، اس میں چمک نہیں آتی سوائے تزکیہ کے۔

وَلَا يَتَنَطَّلُ التَّزْكِيَةُ إِلَّا بِمَعِيَةِ الشُّبُوُرِ.....

اور تزکیہ نہیں ہوتا سوائے مشائخ کی معیت کے۔

وَلَا مَعِيَةُ إِلَّا يَتَنَاهُ عَهْدُ

اور ان کی معیت کا فائدہ نہیں سوائے ان کی اتباع کرنے کے۔

تو معلوم ہوا کہ جو بندہ دین کو اپنے جسم پر لا گو کرنا چاہتا ہے اور ہتنا پھونا بانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مشائخ کاملین کی صحبت میں آئے۔ اپنے آپ کو حوالے کر دے اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو کیسے بدلتے ہیں؟ اس کے بغیر علم حاضر تو رہتا ہے، عمل کا راستہ پوری طرح نہیں کھلتا۔ علامہ اقبال کا ایک عجیب شعر ہے:

— تیری نظر میں ہیں تمام میرے گرشتہ روز و شب

مجھ کو نہ تھی خبر کہ ہے علمِ خیل بے رطب

نخل کہتے ہیں بھجور کے درخت کو اور رطب کہتے ہیں بھجور کو، کھائی جانے والی جو ہوتی ہیں۔ تو نخل بے رطب یعنی درخت بغیر پھل کے۔

تازہ میرے ضمیر میں معمر کہ کہن ہوا

عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب

عشق جو ہے وہ تمام مصطفیٰ ہے اور عقل اگر کامل ہو جائے تو لہب بن جاتی ہے۔ اس عقل کو سیدھا رکھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے اور وہ ملتا ہے اللہ والوں کی محبت میں بیٹھ کر۔

**بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے:**

اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کو اپنی اصلاح کے لیے کسی محقق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قاعدہ ہے کہ

**رأیُ العَلِيمِ عَلِيِّلُ** ”بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے“

اس لیے اس دنیا میں ڈاکٹر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو سیلف ٹریننگ پر انحصار نہیں کرتے، ایک دوسرے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے، ورنہ تو وہ خود ڈاکٹر ہے اور اپنے جسم کو جانتا بھی بہتر ہے تو اپنا علاج خود کرنا چاہیے، مگر ڈاکٹر لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا علاج کرنے سے بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ اسی طرح کوئی اگر چاہے کہ میں اپنی باطنی بیماریوں کا خود علاج کروں رأیُ العَلِيمِ عَلِيِّلُ۔ بیمار کی رائے بیمار والی بات ہوگی۔

**علماء کو صحبت مشائخ کی ضرورت:**

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کو اپنی اصلاح کے لیے کچھ مدت کی



کے پاس رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو وہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔

(الْيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ)

”وہ علم جس کو حاصل کریں علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے اور جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے۔“

تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے دس سال لگاتے ہیں تو کیا وہ اس پر عمل کا رنگ چڑھانے کے لیے دس ماہ نہیں لگا سکتے۔ جس طرح ”کنز وحد ایہ“ پڑھنا ضروری ہے اسی طرح ابوطالب کی کی ”قوۃ القلوب“ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دس سال گزر گئے کتابوں میں دین کو پڑھتے ہوئے، اس دین کی عملی شکل بھی تو دیکھیں۔ اس لیے مشائخ کی صحبت میں جائیں، دین کی عملی شکل آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گی۔

ان کے ساتھ ذرا دیکھیے، ان کو اپنے غصے پر قابو کتنا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے، وہ غیبت سے کیسے بچتے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے، ان کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ یہ صفات یہ کمالات ساتھ رہ کے نظر آئیں گے اور پھر دل کہے گا کہ ہیں تو یہ بھی انسان مگر اللہ نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی آگ بھری ہوئی ہے، ان کی زندگیوں میں دن اور رات کا فرق ختم ہو جاتا ہے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب میری نظر میں دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارنا پڑتا ہے، اسی کو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

— قال را بگوار مرد حال شو  
پیش مرد کامل پامال شو

۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن  
 جان و دل را جانب والدار کن  
 جان و دل کو اللہ کے حوالے کر دے۔ چنانچہ شاعر کہتے ہیں:

۔ اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی  
 تا راہ میں غاشی کہ راہبر شوی  
 ”اے بے خبر کوش کر کہ تو صاحب خبر بن جائے، تو اگر راستہ نہیں دیکھے گا تو تو  
 رہبر کیسے بنے گا؟“

۔ در مکتب حقائق پیشِ ادیپِ عشق  
 ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی  
 تو بیٹا بنتا کہ تو کسی دن باپ بھی بن سکے۔

### حضرت مرشد عالم حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ کا فرمان:

ہمارے حضرت مرشد عالم حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے تھے کہ علمکو عوام کی نسبت باطنی نعمت حاصل کرنے میں کم وقت لگتا ہے، عوام آتے ہیں اس باطن کی نعمت کو حاصل کر کے نور بننے ہیں، علم آتے ہیں وہ اس باطنی نعمت کو حاصل کر کے نور علی نور بن جاتے ہیں۔ علم کا نور تو پہلے ہوتا ہے، اب باطن کا نور جب اللہ عطا فرماتے ہیں تو نور علی نور بن جاتے ہیں۔ اور اس پر دلیل کے طور پر ابو نعیم رضی اللہ عنہ کی روایت پیش فرماتے تھے کہ

«مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ

علی لسانہ»

”جو چالیس دن اخلاص کے ساتھ چلدے گائے، اس کے دل سے حکمت کے

چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔“

اس لیے حدیث میں شریف میں آیا ہے، حضرت علیؓ نے اس کو روایت کیا:

«مَنْ صَلِّى أَوْ بَعَدَنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ لَمْ تُفْعَلْ تَكْبِيرُ الْأُولَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةٌ تَيْنِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ»

”جو چالیس دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کی تکبیر اویٰ فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو برائیں لکھ دیتے ہیں، آگ سے بری اور نفاق سے بری،“

### مشاخچ کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے:

ہمارے مشاخچ کی تکبیر اویٰ کی پابندی دونوں کے حساب سے نہیں سالوں کے حساب سے ہوتی تھی۔ حضرت مولانا شیداحمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں آئے، تقریباً ختم ہوئی، آذان ہو گئی تو حضرت سید ہے مصلیٰ کی طرف چل پڑے۔ مصافحہ کرنے والوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا، دیوانے پر وانے اتنے تھے کہ حضرت کو چلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں کو بہت کہا کہ راستہ دے دو، منت سماجت کی، اتنا تم لگ گیا کہ ابھی راستے میں تھے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، مگر حضرت نے نماز تو خیر پڑھ لی مگر بعد میں آنکھوں میں آنسو آگئے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا: آج تیس سال کے بعد میری تکبیر اویٰ فوت ہوئی ہے۔ یہ نعمت ان کو کیسے ملی؟ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس سے پھر انسان کا دل بیدار ہو جاتا ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں ہے۔

«وَالَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ»

”جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی اسی ہے“

تو اس سے ملا علی قاری ﷺ فرماتے ہیں :

«وَفِي الْحَدِيثِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ مُدَأْمَةً ذُكْرُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ تُورِثُ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ الَّتِي لَا فَنَاءَ لَهَا»

کہ ذکر سے ایسی حقیقی زندگی مل جاتی ہے جس کے بعد اس کو موت نہیں آتی، یہی ہمارے مشاعر فرماتے ہیں کہ دل ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اس دل کو پھر موت نہیں آتی۔

— ہر گز نیروں آنکہ دش زندہ شد بعثت

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے فرمایا :

«إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا»

”جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزر تو تم چولیا کرو“

تو ملا علی قاری ﷺ اس کی تشریع میں فرماتے ہیں :

إِذَا مَرَرْتُمْ بِجَمَاعَةٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاذْكُرُوا اللَّهَ أَنْتُمْ أَيْضًا  
مَوَافِقَةً لَهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ

”جب تم ایسی جماعت کے پاس گزرتے ہو جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو تو تم بھی ان کی طرح اللہ کا ذکر کرو بے شک وہ جنت کے باغوں میں ہیں۔“

اس لیے کہ جوانان نیکوں کی سُنگت پالیتا ہے اس پر نیکی کا اثر ہو جاتا ہے۔

— صحبت صالح حرا صالح کند

صحبت طالع حرا طالع کند

## حسن رفاقت مطلوب ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولئِكَ رَفِيقُهُمْ﴾ (التَّابِعَاتُ ۖ ۲۹:۶)

”وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے برافضل کیا، یعنی انبیاء صدیق، شہید اور نیک لوگ اور ان کی رفاقت بہت ہی خوب ہے“

تو معلوم ہوا کہ مطلق رفاقت کافی نہیں ہے، ”حسن“، حسن رفاقت مطلوب ہے اور حسن رفاقت تبھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رہے اور ان جیسے رنگ کو اپنانے، اسی کا نام اتباع ہے۔

## اتباع کی برکات:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَىَّ﴾

یہ اتنی سی بات کی برکات دیکھو!

﴿مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾

تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور صدیقین کو و عاطفہ کے ساتھ جوڑا یعنی معصومین کے ساتھ غیر معصومین کو جوڑ دیا، ان کی اتباع کی برکت سے۔

اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے بعد

جس نے مشائخ کی اتباع کی اللہ نے ان کے نام کو بھی قبولیت عطا فرمادی۔

حدیث مبارکہ میں نبی ﷺ نے فرمایا:

((هُمْ رِجَالٌ لَا يَسْقُطُونَ جَلِيلِهِمْ))

”وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنا والا بدجنت نہیں ہوتا،“

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک شعر لکھا:

— یک زمانہ صحیح باولیاء  
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریاء

مفتقی اعظم پاکستان، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت! یہ جو شعر ہوتے ہیں، یہ افراط و تفریط کے مرتكب ہو جاتے ہیں، جس سے محبت ہوئی چڑھادیا اور جس سے تھوڑا دل میں مسئلہ ہوا تو اس کو گھٹا دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بات کو بڑھا دیا ہے کہ اللہ والوں کی ایک لمحے کی محبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تو فرماتے کہ سو سال کی عبادت سے بہتر ہے مان لیتے ہیں کہ عبادت میں اخلاص بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو فرماتے ہیں بے ریا عبادت سے بہتر ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس شعر کو پڑھوں، فرمایا جی:

— یک زمانہ صحیح باولیاء  
بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریاء

کہتے ہیں: حضرت! سو سال کی بات سمجھنہیں آرہی تھی آپ نے تو لکھ سال کہہ دیا، یہ کیا مسئلہ؟ تو حضرت نے پھر تحقیقی جواب دیا، فرمایا: دیکھو! اگر کوئی بندہ سو سال، لاکھ سال عبادت کرے تو کیا اس کا خاتمہ اچھا ہونا یقینی ہے؟ فرمایا نہیں، شیطان کی مثال سامنے ہے، ہزاروں سال عبادت کی، انجام بردا ہوا، بلکہ باعور کی مثال سامنے

ہے، سینکڑوں سال عبادت کی انجام برآ ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو! اتنی عبادت کے بعد بھی گارنٹی نہیں لیکن اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب ملکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سمجھی زبان کے ساتھ فرمائے ہیں:

**«هُمْ رِجَالٌ لَا يَسْقُطُونَ جَلِيلُهُمُ»**

یہ وہ بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہوتا۔ اور شقی وہ ہوتا ہے جس کا خاتمه ایمان پر نہ ہو، جس کا ایمان پر خاتمه ہوا وہ شقی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہزار سال کی عبادت پر بھی وہ نعمت نہیں ملتی جو اللہ والوں کی صحبت میں مل جاتی ہے۔

### حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: میرے پاس دو عالم لا ایک صحبت یافتہ اور ایک غیر صحبت یافتہ ٹھیک پانچ منٹ میں بتاؤں گا کہ صحبت یافتہ کون ہے اور غیر صحبت یافتہ کون ہے؟ فرماتے تھے آنکھوں کے اشاروں میں، تیور میں، کندھوں کی حرکت میں، رفتار میں، گفتار میں، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے اور یہ غیر صحبت یافتہ ہے۔

### امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

**”علم بدن تربیت کے نفس کا کپڑا ہوتا ہے“**

علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دورہ حدیث کے طلبہ کو فرمایا اور اس بات کو حضرت مولانا عبد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شجاع آباد والے انہوں نے نقل فرمایا وہ خود طلباء کی جماعت میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے طلباء کو

بلاؤ کر بٹھا کر فرمایا:

کہ تم جتنی مرتبہ چاہو بخاری شریف ختم کرو لیکن جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے، روح علم سے محروم رہو گے۔

یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث کے طلباء کو فرماتا ہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رہبر کا ہونا ضروری۔

**ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:**

ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”مرید پر واجب ہے کہ شیخ سے تربیت پائے، جس کا شیخ نہیں وہ فلاح نہ پائے گا اور اس کا رہبر شیطان ہو گا۔“

اور فرماتے ہیں:

”میں نے ابو علی دقائق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ جو خود روپو دا ہوتا ہے، وہ پتے تو دیتا ہے، پھل نہیں دیا کرتا۔“

اور واقعی حقیقت بات ہے کہ خود روپو دوں کو پھل تو لگتے نہیں لگیں تو بے ذائقہ اور بہت ہی زیادہ کم مقدار میں لگتے ہیں۔ تو ہم خود روپو دے نہ بنیں! اپنے لیے ہم کسی مالی کی تلاش کریں۔

**قاضی شناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:**

قاضی شناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت غور کے قابل ہے، فرماتے ہیں:

”نور باطن میں علیہ السلام رازِ سینہ درویشاں باید جست“

جست کا مطلب ہے تلاش کرنا اسی سے جتو ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے نور باطن کو

درویشوں کے سینوں میں تلاش کرو، وہاں سے تمہیں ملے گا۔

**حضرت محمد مقصوم عَسْلَمَیہ کا فرمان:**

حضرت محمد مقصوم عَسْلَمَیہ فرماتے ہیں:

”یہ قرب خاص جس کا نام نسبت ہے اس عالم اساب میں حضرات صوفیا کے طریق پر چلنے سے ہی مل سکتی ہے۔“

**علامہ سید سلمان ندوی عَسْلَمَیہ کا فرمان:**

علامہ سید سلمان ندوی عَسْلَمَیہ فرماتے ہیں:

”اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت سے زیادہ کوئی عمل نہیں۔“

اور اس پر عجیب دلیل قائم کی، فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے امت کو دعا سکھائی:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ)

”اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں،“

یہ جو اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگی جا رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کی صحبت اور محبت میں انسان کو دین ملتا ہے۔

**حضرت شیخ محمدث دہلوی عَسْلَمَیہ کا فرمان:**

حضرت شیخ محمدث دہلوی عَسْلَمَیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے خط لکھا اور خط میں فرمایا:

صلائے خشک ونا ہموار نا باشی

”خشک اور نا ہموار ملا شہ بننا۔“

کچھ ہوتے ہیں ناخشک اور نا ہموار.....!!! تو وہ نہ نہیں۔

### تنقیدی نظر محرومی کا سبب:

ماعلیٰ قاریؒ فرماتے ہیں کہ صحبت میں رہو تو تم محبت کے ساتھ رہو، تنقید کی نظر کے ساتھ رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم ہر وقت تولتے ہی رہو گے۔

میری ہر نظر تیری منتظر تیری ہر نظر میرا امتحان

تو کئی طلباء علم کو دیکھا کر تولتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسا، فلاں بزرگ ایسا، اور فائدہ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔

چنانچہ ایک عالم تھے، حضرت مدینیؓ سے دورہ حدیث کیا، وہ ہمارے مرشد عالمؓ کے دارالعلوم حنفیہ میں مسلم شریف پڑھاتے تھے، عرصہ گز رگیا مسلم شریف پڑھاتے ہوئے، بڑے استادوں میں سے تھے، دوسال حضرت کے سامنے رہے، سوچتے تھے میں بیعت ہو جاؤں گا۔ کہتے رہے، درس بڑا اچھا دیتے ہیں، چہرے پر بڑا نور ہے، بات میں بڑی تاثیر ہے۔ بیعت کے بارے میں سوچتے ہی رہے کہ ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ جس دن حضرت کی وفات ہوئی، اس دن سرپکڑ کر بیٹھ گئے، کاش میں فائدہ اٹھایتا۔ اس عاجز کے پاس آ کر کہنے لگے کہ زندگی کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ایسے کامل کے مدرسے میں رہ کر دوسال گزارے اور میں نے ان سے فائدہ نہ پایا، آج دیکھتا ہوں کہ پورے ملک میں ان جیسی شخصیت نہیں رہی، سوچتے رہ جاتے ہیں، تولتے رہ جاتے ہیں۔

## صحبت میں رہیں مگر محبت کے ساتھ:

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ کے اندر حدیث شریف ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَمَّا  
مِنِّي)) کی شرح میں لکھتے ہیں:

فِيهِ تَعْلِيمٌ لِمُرِيدٍ لَا نَأْنَى يَنْتُرُ إِلَى الشَّيْخِ بِعِينِ الْإِسْتِحْقَارِ وَإِنْ  
رَأَى عِبَادَةً قَلِيلَةً فَلِيُظْهِرْ عُذْرَةً وَيُعَلِّمْ نَفْسَهُ إِنْ شَرَعَ مِنْهَا  
إِنْكَارٌ عَنْ شَيْخِهِ لَا نَأْنَى مَنْ اعْتَرَضَ عَلَى الشَّيْخِ لَمْ يَفْلُحْ أَبَدًا

اس میں مرید کے لیے تعلیم ہے کہ وہ اپنے شیخ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے  
اگرچہ اس کی عبادت کو اپنی عبادت سے تھوڑا دیکھے، سمجھ لے کہ اب ان کی عذر  
کی زندگی ہے اور اپنے نفس کو یہ بات سمجھائے کہ اگر شیخ پر انکار جاری ہو گیا تو  
پھر کیا ہوگا؟ شیخ کے اوپر جس نے اعتراض کیا وہ کبھی فلاخ نہیں پاسکتا۔

تو معلوم ہوا کہ صحبت میں رہیں مگر محبت کے ساتھ۔ جب ایک مرتبہ دیکھ لیا کہ  
زندگی سنت اور شریعت کے مطابق ہے تو بس کافی ہے۔ ہربات میں ہر چیز میں تو لئے  
رہیں گے تو شیطان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیگا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ  
جیسے ڈاکٹر کے بارے میں جب جان لیتے ہیں کہ معروف ہے، اچھا ہے، آپریشن کرتا  
ہے تو کیا کوئی جا کر ڈگری کی تصدیق کرتا ہے؟ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے  
یہن کہاں سے سیکھا؟ کوئی اس کی دو ایسیوں کو دیکھتا ہے کہ ڈاکٹرنے دوائی ٹھیک بھی دی  
ہے یا نہیں؟ بس علاج کروالیتے ہیں۔ ایسے ہی جب دیکھ لیا کہ اس شیخ کی صحبت میں  
رہنے والوں پر شریعت اور سنت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتے ہیں،  
گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ جائیں اور ان کی صحبت

میں رہ کر اپنے آپ کو علاج کے لیے حوالے کر دیں۔

### اصلاح میں بڑی رکاوٹ:

بڑی مصیبت یہ ہے کہ نفس اپنے عیب کسی کو بتانے نہیں دیتا۔ اب اگر مریض صاحب ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر صاحب! ران پر پھوڑا کلاہ ہے مگر میں کپڑا اہٹا نہیں سکتا تو وہ کہے گا کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، مگر تشریف لے جائیں۔ بھائی! اگر آپ پیش کروانا ہے تو شریعت ران کھونے کی اجازت دیتی ہے۔ عام بندے کے سامنے ران کا کھوننا حرام ہے مگر علاج کی نیت سے ڈاکٹر کے سامنے کھوننا جائز ہے۔ اسی طرح عام بندے کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانا، یہ اعلان کرنے والی بات ہے، اظہار کرنے والی بات ہے، یعنی ہے۔ لیکن طبیب کو تو وہ بتانا پڑے گا کہ حضرت! میرا حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے، بتائیں گے تو علاج ہو گانا۔ تب جا کر انسان کے اوپر رنگ چڑھے گا اور اس کو سیدھا راستہ ملے گا۔

### سیدھا راستہ کونسا ہے؟

حضرت قاری محمد طیب حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے تھے: قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے:

**﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾** (الفاتحہ: ۵)

اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے، یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی خلاصے کے لیے مقتدی اپنے امام کو اپنا وکیل بنایتے ہیں، ضامن بنایتے ہیں۔ ”الامام ضامن“ لہذا امام اللہ کے حضور فرید پیش کر دیتا ہے **﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾**۔ مسئلہ دیکھیے کہ پہلے دعائیں گوائی اور پھر اسی امام کی زبان سے اللہ نے

**جواب بھی کہلوادیا:**

﴿ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رِبِّ يَفِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ۲۰۱)

گویا امام دونوں کا وکیل بن گیا۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ نکاح کے باب میں ایک بندہ طرفین کا وکیل بن سکتا ہے، بیع اور شراء میں نہیں۔ بیع اور شراء کا مسئلہ اور ہے۔ تو امام بھی طرفین کا وکیل ہے۔ پہلے خود اور پھر مقتدیوں کی طرف سے مانگتا ہے۔

اب اگر کوئی خشک اور ناہموار صاحب کہتے ہوں کہ جی جب امام فاتحہ پڑھ کر وکیل بن سکتا ہے تو وضو بھی امام کر لے۔ تو بھی! وضوا اور طہارت تو آداب شاہی میں سے ہے، جب شہنشاہ کے محل میں آنا ہو تو تم طہارت اور وضو کے ساتھ آؤ، یہ داخلی شرائط ہیں۔ اس کے بغیر تم نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ کسی کا بدن ناپاک تو نماز کی نیت ہی نہیں ہوتی، کسی پر غسل فرض ہو تو نماز کی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو وضوا اور طہارت آداب شاہی ہیں، یہ مسجد میں نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے کی شرط تھی، لہذا اس میں کوئی وکیل نہیں بن سکتا۔ آکے کھڑے ہوں گے تو طہارت کر کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور کوئی خشک اور ناہموار یہ کہے کہ جی جب فاتحہ میں امام ضامن بن گیا تو رکوع اور بحود بھی وہی کر لے۔ تو قاری محمد طیب رض فرماتے ہیں کہ رکوع اور بحود اعمال شکرانہ ہیں، جب نعمت ملے تو شکر تو ہر بندے کو ادا کرنا پڑتا ہے، شکرانے کے طور پر۔ اس لیے ہر مقتدی کو رکوع بحود بھی کرنے پڑتے ہیں، اے مالک! آپ نے ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ دعا کی توفیق بھی دے دی اور اس کا جواب بھی دلوادیا، اب ہم رکوع بحود کر کے آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ مانگنا، یہ اصل میں لب باب ہے قرآن کا۔ اب یہاں ایک علمی نکتہ کہ قرآن میں جواب جو دلوا دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو نا ॥ اہدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ॥ اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آگے گئے نہیں کہا: صراط القرآن والحدیث قرآن اور حدیث کا راستہ، قرآن اور حدیث کے نقشے پر چل پڑو! اس لیے خشک اور ناہموار کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو قرآن سے دکھاؤ یا حدیث سے دکھاؤ! تو بھائی وہ صراط المستقیم سے آگے قرآن اور حدیث تو نہیں کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟

**﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (فاتحہ: ۶)**

بندوں کے بارے میں بتایا کہ ان بندوں کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ان بندوں کے پیچھے چنان پڑے گا۔ اسی کو اقتدا کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں۔

**تقلید لازم ہے:**

تو تقلید تو سمجھ میں آتی ہے، فرض ہے، قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا:

**﴿وَاتَّبِعُ مَسِيلَ مَنْ أَنْبَأَ إِلَيْهِ﴾**

یہ واتیع امر کا صینہ ہے اور جس چیز کا حکم ہوا انسان پر وہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ تو تقلید شخصی واجب ہے، مطلقاً تقلید تو فرض ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی امام کی نہیں مانتے۔ خدا کے بندو! تم آئمہ کی نہیں مانتے تم اپنے مسجد کے امام کی مانتے ہو۔ کیا تم ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے؟ کسی سے تو پڑھانا! کون تھا وہ؟ مسجد کا امام۔ تو مسجد کے امام کی مانتے ہیں، امام ابوحنیفہ علیہ السلام کی نہیں مانتے..... وہ بھی وہ۔

اور آج کل تو فتاویٰ بھی ان کے علمانے لکھے ہیں۔ جب ان حضرات کے علماء کے فتاویٰ میں دیکھتا ہوں تو جیران ہوتا ہوں۔ بھی! جب کوئی غیر مقلد ٹھہر اتواس کو تو کسی کی نہیں مانتی چاہیے۔ اب فتوے جو چھپ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اماموں کی بات کو وہ مانتے ہیں، فتوے پڑھ کر چلتے ہیں۔ تو پھر خواہ مخواہ یہ بات کہ جی ہم کسی کی نہیں مانتے، تو تقلید ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے۔ الحمد للہ ہمیں محدثین اور فقہاء کے جو بڑے امام تھے، ہم نے امامِ عظیم نام نہیں رکھا، اس دور کے اکابر نے ان کا نام رکھا۔ اس وقت امت اس پر متفق ہوئی اور آج ہم اس امامِ عظیم ﷺ کی تقلید کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ مسجد کے مولوی کے پیچھے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم امامِ عظیم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیش ہوں گے۔

حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم ترکیب نحی کے اعتبار سے مبدل منہ ہے اور ﴿صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ یہ بدل کل ہے اور بدل کی ترکیب میں مقصود بدل ہی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضرات آئمہ کی پیروی کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔

## صحبت کی برکات:

صحبت کے اندر اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الغنی پالن پوری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا: حضرت! آپ ہر وقت صحبت ہی کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا: تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، دین کے سارے کام تو کرتے ہو، توجہ دین کے سارے کام کرتے ہو تو

صحابی بھی بن سکتے ہو۔ کہتا ہے نہیں۔ کیونکہ صحابی تو صحبت سے ہے۔ تو فرمایا: اس کا مطلب ہے صحبت سے وہ درجہ ملا جو انسان کو عبادات کے ذریعے سے نہیں ملا۔ اس لیے صحبت صلحاء و نعمتیں ملتی ہیں جو ذاتی عبادات سے انسان کو نہیں مل سکتیں۔

سینے عبد اللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لا ایسا ہی رہی تھیں اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا دور برداشت انصاف کا اور پر امن دور تھا۔ اس نے سوال پوچھا کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ عبد اللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا! فرمایا: سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب نبی ﷺ کی معیت میں جہاد کے لیے نکلنے والوں کے گھوڑے کے گھنٹے میں جو مٹی لگی تھی وہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ صحبت کی برکات دیکھیے! اسی لیے ساری دنیا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ جیسے بندوں سے بھر جائے تو اربوں کھربوں اولیس قرنی مل کر ایک ایک حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو ایک مرتبہ دیکھا تھا۔ نبی ﷺ نے فرمادیا ٹھیک ہے تمہارا ایمان قبول ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنا پچھایا داؤں میں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ دیکھا۔ معلوم ہوا کہ صحبت کی برکات بغیر صحبت کے انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔

بے استادے بے بنیادے:

آج دنیا کہتی ہے کہ جی استاد کے بغیر کام سمجھ میں نہیں آتا ۔

۔ ہر آں کارے کہ بے استاد باشد

یقین دانی کہ بے بنیاد باشد

ہر بندہ جو بے استاد ہوتا ہے سمجھ لو کر وہ بے بنیاد ہوتا ہے۔  
 کارپینٹر کے پاس بیٹھے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بولہ پکڑنا کیسے ہے؟  
 درزی کے پاس بیٹھ کر پتہ چلتا ہے کہ سوئی پکڑنی کیسے ہے؟  
 خوش نویں کے پاس بیٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ قلم پکڑنا کیسے ہے؟  
 یہ چھوٹے چھوٹے کام استاد کی صحبت کے بغیر آگئیں آتے تو دین استاد کی محبت  
 کے بغیر کیسے آئے گا؟

اس لیے مولا ناروم عَزَّوَجَلَّ فرماتے ہیں۔

— ہر کہ خواہد ہم نشین باخدا  
 او نشید در حضور اولیاء

”ہر وہ بندہ جو چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں۔ اس کو چاہیے کہ اللہ والوں  
 کے حضور بیٹھے ایسے ہی ہو گا کہ اللہ کے ساتھ بیٹھا۔“

— صحبت نیکاں اگر یک ساعت است  
 بہتر از صد سالہ زہد و طاعت است  
 ”نیک لوگوں کی ایک گھری کی صحبت سو سال کے زہد و طاعت سے بہتر ہوتی  
 ہے۔“

### صحبت کارنگ کیسے چڑھتا ہے؟

تورشیت تو بھوڑنا پڑتا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اس تعلق کو بڑے عجیب انداز سے  
 سمجھایا کہ دیکھو ہمارے ہاں دیسی آم ہوتے ہیں، سائز بھی چھوٹا، کھنے بھی ہوتے  
 ہیں، ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا اور درخت کے اوپر لگتے بھی تھوڑے ہیں۔ اس لیے باعث

والے دیسی آم کا باغ نہیں لگاتے، پیوندی آم کا باغ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ہیں تو وہ بھی آم، پتے بھی اسی کے، تباہی اسی کا مگر اس کے اوپر ایک جوڑ لگاتے ہیں جس کو پیوند کہتے ہیں۔ اس پیوند لگنے کے بعد وہ قلمی آم شروع ہو جاتا ہے۔ لنگڑا، دوسری، انور ٹول۔ تواب جب یہ آم کی شاخ نکلتی ہے تو بڑھتی ہے۔ تو اوپر پھل بھی بہت زیادہ ذائقہ اور خوبی بھی بہترین، لوگ اس آم کو کھانے کے لیے ترتیب ہیں۔ نیچے سے ابھی بھی دیسی ہے، جڑ دیسی ہے، لیکن پھل قلمی آم کے لگ رہے ہیں۔ تو فرماتے تھے کہ مرید دیسی آم کی مانند ہوتا ہے جب شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو قلمی آم کی قلم لگ جاتی ہے۔ پھر اسی مرید کے اندر اخلاق اور اعمال کے پھل لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کو دیکھ کر دنیا حیران ہوتی ہے کہ واقعی یہ کہیں سے پی کر آیا ہے، رنگ بتا دیتا ہے۔

اسی طرح دیسی گلاب، اس کے اندر تھوڑے پھول لگتے ہیں اور چند سالوں کے بعد پھول دینے چھوڑ بھی جاتا ہے۔ یا پرانے دیسی گلاب کے پودے لیکیں ہوں تو پھول بھی نہیں آتے، کئی دفعہ لوگ بنگ آ کر آخر نکال دیتے ہیں۔ اس کی جگہ قلمی گلاب لگاتے ہیں۔ قلمی گلاب کارنگ بھی خوبصورت اور خوبی بھی بہت اچھی، تو نیچے سے جڑ دیسی گلاب کی اور پیوند لگا تو اوپر سے ڈبل ڈیلاسٹ، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، خوبی سوکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ تو مرید نیچے سے دیسی گلاب کی طرح اور قلم کے جتنے سے پھر ڈبل ڈیلاسٹ بن جاتا ہے۔ جیسے اس گلاب کا مارکیٹ میں جانے سے ریٹ لگ جاتا ہے اسی طرح اس طالب باطن کا بھی اللہ کے ہاں پھر ریٹ لگ جاتا ہے۔ ہاں ہر بندے کے پاس تو نہیں جانا چاہیے، دیکھ لو کہ کسی کے پاس رہ کر دل پر اثر ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔

چنانچہ علامہ اقبال نے کہا:

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برق  
 جو تجھے حاضر و موجود سے پیزار کرے  
 موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر ریخ دوست  
 زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے  
 دے کے احساس زیاد تیرا لہو گردے  
 ققر کی سان چڑھا کر تجھے تکوار کرے  
 تو ایسے کاملین سے آج دنیا خالی تو نہیں ہوئی، ال جاتے ہیں، جہاں طبیعت  
 چاہے آپ جائیے، فائدہ پائیے مگر فائدہ تو پائیے۔

### ذائقہ کا پتہ چکھنے سے لگتا ہے

امورِ ذوقیہ کا بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، صحبت سے سمجھ میں آتی  
 ہے۔ دیکھیں اگر کسی بندے نے زندگی بھر آم نہ کھایا ہو اور اس کے سامنے کوئی آم کا  
 تذکرہ کرے کہ تو وہ دیہاتی تواس کو گڑ اور شکر سے قیاس کرے گا کہ میٹھے آم کی بات  
 کر رہا ہے تو گڑ کی طرح میٹھا یا شکر کی طرح، تو سن کے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں جب  
 آم کو چکھ لے تو گا تو سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ مٹھاں تو کسی اور طرح کی تھی۔ اسی طرح  
 فقط الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آتی صحبت میں رہ کر بات سمجھ میں آتی ہے۔

حضرت نانو توی رض سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے حاجی صاحب کی  
 بیعت کیوں کی؟ تو حضرت نے عالمانہ جواب دیا، فرمایا: ایک ہوتے ہیں بصرات  
 اور ایک ہوتا ہے البصار۔ ہم لوگوں کی بصرات زیادہ اور البصار کم اور حاجی کی 'بصار تیز'  
 اور بصرات کم۔ اسی لیے ہمارے دلوں میں مقدمات وارد ہوتے ہیں، نتیجہ ہم نکالتے

ہیں، کبھی ٹھیک اور کبھی ٹھوکر لگ گئی۔ گوکہ اللہ نے مجتہد کی خطائے اجتہادی کو بھی ایک نیکی بنادیا۔ تو ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ تو حاجی صاحب کے دل میں نتائج پہلے وارد ہوتے ہیں اور مقدمات تو خود بخود ہن میں آہی جاتے ہیں، اس لیے وہ کپی بات کرتے ہیں۔

## عشق کی دولت عاشقین سے ملتی ہے:

تو اصول کی بات یاد رکھیں کہ علم کا لطف عمل سے اور عمل کا لطف عشق سے۔ دل میں عشق الہی ہو تو عمل کرنے کا بھی مزہ، نماز کا مزہ، تلاوت کا مزہ۔ تو علم کا لطف عمل سے اور عمل کا لطف عشق سے اور عشق کی دولت عاشقین کی محبت سے۔

حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی حضرت مولانا محمد علی مونگیری حضرت مولانا محمد علی مونگیری (جو ندوہ کے بانی تھے) سے پوچھا: مولانا! آپ نے کبھی عشق کی دکانیں دیکھی ہیں؟ تو انہوں نے سوچ کر کہا کہ جی حضرت میں نے دو دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا: کون کون سی؟ کہا کہ ایک شاہ آفاق حضرت اور ایک غلام علی دہلوی حضرت مولانا محمد علی مونگیری کی۔ خانقا ہوں کو عشق کی دکانیں کہا۔ تو کپڑے کی دکان سے کپڑا ملا، سبزی کی دکان سے سبزی ملی اور کریانے کی دکان سے کریانے کی چیزیں ملیں اور اللہ والوں کی دکانوں سے اللہ ملا۔

— ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ  
ملنے والوں سے راہ پیدا کر  
تو ملنے والوں سے جس نے راہ پیدا کر لی اس کو اللہ کا تعلق پیدا ہو گیا۔

— تھا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں  
میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے

## ترکیب کی اہمیت تعلیم اور تبلیغ پر:

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مفہوم سینے، فرماتے ہیں کہ معاش میں اتنا مشغول ہو جانا کہ مہینہ بھر اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا موقعہ ہی نہ ملے، یہ میرے نزدیک ناجائز ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ تعلیم اور تبلیغ کی نسبت میرے نزدیک ترکیب زیادہ ضروری ہے۔ اور اس پر عجیب دلیل قائم کی، فرماتے ہیں کہ گراہ فرقوں کے تمام بانی اہل علم حضرات تھے۔ آپ رَبِّکُمْ دنیا میں جتنے گراہ فرقے گزرے ہیں، ان کا بانی عالم ہو گا۔ تو معلوم ہوا کہ سید ہے رستے پر ہنے کے لئے جس رستے کی ضرورت لازمی ہے وہ ترکیب کا راستہ ہے۔ اللہ والوں کے پاس آنے سے پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اعمال کو محبت کے ساتھ کرتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم کو زیب دیتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان مخفی اعمال بھی موجود ہوں۔ جلوق سے چھپ کر کے۔

## علم کا بھرم:

صحبت میں آئئے گا تو پھر دیکھئے گا کہ مجھے علم کا بھرم رکھنا ہے، ورنہ تو علم کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نجح صاحب عالم تھے، ان کی عدالت میں ایک ہندو اور مسلمان عالم کا مقدمہ آیا۔ انہوں نے دونوں کے دلائل سے مقدمے کی پیروی ہوئی، فیصلہ انہوں نے قانون کے مطابق مسلمان عالم کے حق میں کیا اور کہا کہ قانون کے مطابق آپ کو یہ تمام مال، بیع آٹھ سوروپے سود کے ملنا ہے۔ اس زمانے میں استاد کی تخلوہ دوروپے ہوتی تھی، اب جس کی تخلوہ مہینے میں دوروپے پے ہواں کو آٹھ سوروپے اور پرمل جائے تو اس کے تو مزے۔ ان عالم صاحبؒ نے کہہ دیا

کہ مجھے سو نہیں چاہیے۔ تو نجح صاحب نے کہا کہ علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دریختار میں لکھا ہے:

**لَا رِبُّ لِبَنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ**

”کہ دار حرب میں مسلم اور حربی کے درمیان میں سو نہیں ہوتا۔“

تو عالم نے سن کر کہا کہ جناب آپ سودوے دیں گے، میں بغل میں دریختار لے کر پھر تار ہوں گا کہ یہ سود میرے لیے جائز تھا۔ میں کس کو یہ دریختار دکھاتا پھروں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے فقہ، دین کی سمجھ کر دینے والا جائز تو ہنا کہ دے رہا ہے لیکن جو نکلے علم پر حرف آتا ہے اس لیے یہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے رنگ ہوتا ہے جو چڑھ جاتا ہے، پھر مال کو دیکھ کر رال نہیں پہنچتی، پھر انسان تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے۔

### تصوف کا کم از کم فائدہ:

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے جو کم سے کم فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ بندے کو اپنے اندر عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، یہ کم سے کم فائدہ ہے ورنہ تو اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل کرنا فرض ہے اور ثبوت میں آیت قرآن پڑھتے ہیں:

**(فِيمَا أَيْمَأَهَا الظِّنَّ أَمْنَوْا أَنْقَوْا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِلَهُ)** (سورہ آل عمران: ۱۰۲)

”اے ایمان والواہل سے ڈر و جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے“

فرماتے ہیں کہ صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور تعلیم و تعلم کی بنیاد ہی بھی ہے کہ بندے پر اس کا رنگ چڑھ جائے۔

یہ ذہن میں رکھیے کہ تصوف لوٹنے پوچنے کا نام نہیں ہے کہ کوئی حال طاری ہوا ہم نماز میں لوٹنے لگ گئے، محفل ذکر میں لوٹنے لگ گئے، یونچ لینے لگ گئے، اس کا نام تصوف نہیں ہے۔ تصوف نام ہے ملکات کے حاصل کرنے کا کہ اخلاقیات انسان کے اندر آ جائیں، اس کا نام تصوف ہے۔ اخلاص آجائے اور تواضع پیدا ہو جائے، اس کا نام تصوف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں آج کے دور میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے حاصل ہونے کے بعد کوئی جادو بندے پر اڑنہیں کرتا۔ یہ جو فتنے ہوتے ہیں کوئی خشک اور ماہمور بن گیا، کوئی متنکر حدیث بن گیا، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگ گیا۔ فرمانے لگے کہ اہل اللہ سے سختی ہونے کے بعد پھر یہ جادو اڑنہیں کرتا، بندے کا عقیدہ سلامت رہتا ہے۔

ہمارے استاد مولانا اشرف شاد حصہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری نظر میں آج کے دور میں کسی شخص سے بیعت ہونا «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا» کا مصدقہ ہوتا ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ بیعت آپ ایسے بندے سے ہوں جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور اگر ہوئی جاہل اور کہے کہ ”علمون بس کریں اویار“ تو اس کو کہیں گے کہ بھی! اپنے گھر جا۔ فرماتے ہیں کہ تصوف حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بڑھانا ہے۔ تم ہمت کرو، صاحبِ ذوق بتو، ورنہ خدا کے لیے اس کا انکار تو نہ کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے۔ دین کے شعبے کا انکار تو نہ کرو کہیں وہ عذاب کا باعث نہ بن جائے گا۔

۔ گر ہوائے ایں سفر داری دلا  
دامن رہبر بگیر و پس بیا  
”اے دل اگر اس سفر کی تمنا رکھتا ہے تو رہبر کا دامن پکڑا اور بس“

بے رفیق ہر کہ شد در راه عشق  
 عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق  
 ”عشق کی راہ میں ہر بے رفیق کا نصیب عمر کا ضایع تو ہے، عشق کی آگاہی  
 نہیں“  
 تو نظریں صحیح پیدا کرنے کے لیے کسی صاحبِ نظر کا دامن تھام لو۔

صحبت سے دینِ صحیحہ پر ثبات نصیب ہوتا ہے:

کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں عالم ہوں لہذا میرے لیے دامن تھامنا ضروری نہیں۔  
 واقعہ سن لیجیے! دارالعلوم دیوبند جب بنا تو اللہ کی شان کہ شوریٰ میں جتنے بھی حضرات  
 تھے سب صاحبِ نسبت صاحبِ تقویٰ بزرگ تھے مگر دیوبندیستی جو تھی، اس بستی میں  
 ایک صاحب تھے بڑا سیاسی ذہن رکھنے والے۔ کئی ہوتے ہیں نا! کوئی نسل بننے کا شوق  
 ہوتا ہے، ناظم بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ نے بندوں طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، وہ اس  
 قسم کا ذہن رکھنے والا تھا۔ اس نے ساری بستی والوں سے پہلے کنوینگ کی اور ان کو کہا  
 کہ دیکھو! مدرسہ یہاں چل رہا ہے اور بستی کی نمائندگی ہی نہیں۔ بھی! ہم بستی والے  
 ہیں ہماری بھی تو نمائندگی ہوئی چاہیے۔ تو بستی والے سادہ لوگ تھے، انہوں نے کہا  
 مجی بالکل۔ چنانچہ فتنہ کھرا کر دیا، آکر کہا کہ جناب! مدرسہ بند کروادیں گے اگر چلا نا  
 ہے تو ہمارا ایک نمائندہ شوریٰ میں ہونا چاہیے۔ سارے بستی والے متفق، بعض اساتذہ  
 بھی متفق، یہ بات اتنی بڑی ہی کہ ایک موقعہ آگیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ  
 میں بھی متفق ہو گیا کہ مدرسے کو بند نہیں کرنا چاہیے ایک ہی بندہ ہے نا اگر نمائندگی ہو  
 بھی گئی تو باقی شوریٰ تو اپنی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شوریٰ میں تھے، فرمائے

لگے کہ ہرگز نہیں، ہم اس کو شوریٰ میں نمائندگی ہرگز نہیں دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات کرنے کے لیے گئے کہ حضرت! ایک بندے کی وجہ سے مدرسہ بند ہو جائے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہم مدرسہ بند کر دیں گے، یہ مدرسہ ہے دکان نہیں ہے، جب تک اصولوں پر کام کر سکیں گے کریں گے، جب اصولوں کو چھوڑنا پڑا تو مدرسے کو چھوڑ دیں گے، اصول کو نہیں چھوڑ سیں گے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے تب پتہ چلا کہ دین کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے سینڈ لے لیا کہ جس کے اندر تقویٰ طہارت علم والی صفات نہیں ہوں گی وہ مدرسے کی شوریٰ کا ممبر نہیں بنے گا۔ اللہ نے اس فیصلے کی برکت سے بسمی والوں کے اندر سے ہوا ہی نکال دی۔ قنہ ختم ہو گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جیسے بندے کی آنکھیں کھل گئیں۔ بڑوں کے سامنے آ کر، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر چاہے علم ہو، آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان دین کو سیکھتا ہے۔

### اہل اللہ کی صحبت کے چار فائدے:

چنانچہ اہل اللہ کی صحبت میں چار لفظے ملتے ہیں۔

(۱) پہلا نفع کہ ان کے مفہومات اور ان کی باتیں سن کر نفس کے رذائل معلوم ہو جاتے ہیں۔

(۲) دوسرا انسانی طبیعت کے اندر تقلیل اعمال اور اخلاق کا جو مادہ ہے اس کی وجہ سے طبیعت ان کے اخلاق کو اپنالیتی ہے۔

(۳) تیسرا انسان ان کی صحبت میں جانے سے ان کی دعاوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

(۲) چوتھا فائدہ اگر کسی بات پر ان کا دل خوش ہو گیا تو اہل اللہ کے دل کا خوش ہونا دعاۓ مستجاب کا درجہ رکھتا ہے۔  
روح المعانی میں لکھا ہے کہ اہل اللہ کے دل کا خوش ہونا دعاۓ مستجاب کا درجہ رکھتا ہے۔

### نسبت ملنے کی گارنٹی:

اب یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ حضرت تھانوی رض فرماتے ہیں کہ تین کام کرو اور نسبت ملنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں، یہ کوئی عام آدمی بات نہیں کر رہا مجد و ملت فرمار ہے ہیں۔

(۱) ایک نیک اعمال کا اہتمام کرو۔

(۲) دوسرا کام صحبت صلحاء اختیار کرو، کسی سے بیعت کرو۔

(۳) تیسرا ان کے کہنے کے مطابق ذکر کی کثرت کرو۔

فرماتے ہیں کہ تین کام کرو گے تو واللہ! واللہ! واللہ! تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں نسبت کا نور عطا فرمادیں گے۔ اللہ کے بندے نے تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ کرنے میں کمی ہے۔ صحبت اختیار کریں پھر دیکھیے کہ نسبت کی برکتیں کیا رنگ دھاتی ہیں۔

### غیر مقلدین کے اکابر بھی تصوف کے قائل تھے:

اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل خشک اور ناہموار زیادہ ہو گئے ہیں جو تصوف کو ہی نہیں مانتے۔ چونکہ من مانی جتنی بڑھتی جائے گی نفسانیت اتنی بڑھتی جانے کی تو پھر نہ ماننے والے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جن کے ساتھ یہ اپنی نسبت اوپر جوڑتے

ہیں وہ سب مانتے تھے۔ یہ خشک اور ناہموار اپنی نسبت جن کے ساتھ جوڑتے ہیں سب تصوف کے قاتل تھے۔

سینے ذرا! شیخ عبدالواہب نجدی تصوف کے قاتل تھے۔ اپنی کتاب مؤلفات الفتاویٰ و المسائل میں وہ لکھتے ہیں:

إِذَا كَانَ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الَّذِينَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِي بِالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ  
وَيَقُولُ لَهُ الْفُقْهَاءُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَانِي بِالْعِبَادَةِ وَطَلَبِ الْآخِرَةِ  
كَالصُّوفِيَّةِ فَبَعْثَ اللَّهُ نَبِيًّا بِهِلْدًا الَّذِينَ الْجَامِعُ لِلنُّوعِينَ  
”وہ لوگ جن کی دین کی طرف نسبت ہے، منسوب کیے جاتے ہیں بعض ایسے  
ہیں جن کا مقصود علم اور فقة ہوتی ہے، ان کو فقہا کہتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں  
کہ جن کا مقصود عبادت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صوفیا، اللہ نے اپنے  
نبی ﷺ کو جس دین کے ساتھ بھیجا وہ ان دونوں اقسام کا جامع ہے۔“

یہ ان کے الفاظ ہیں، اللہ نے جو اپنے نبی ﷺ کو علم دے کر بھیجا، یہ دونوں  
نویں، دونوں قسمیں وہاں سے ثابت ہیں۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں:

وَلِهِلْدًا كَانَ الْمَشَايخُ الصُّوفِيَّهُ وَالْعَارِفُونَ يُوَصُّونَ كَثِيرًا  
بِمُتَابَعَةِ الْعِلْمِ ه

”اسی وجہ سے مشائخ صوفی اور عارفین علم پر عمل کی بہت وسیت کرتے تھے“  
یہ ان کے الفاظ ہیں:

تیسرا جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

وَمِنَ الْعَجَائِبِ فَقِيهٌ وَصُوفِيٌّ وَعَالَمٌ وَزَاهِدٌ

”یہ عجائب روزگار میں سے ہے کہ فقیہ بھی ہوا و صوفی بھی، عالم بھی ہوا و رزابہ بھی“

یہ عجائب میں سے ہے۔ ان کے بیٹھے اپنی کتاب ”الْهَدِیَةُ السُّنْنَیَةُ“ میں فرماتے ہیں:

وَلَا نَنْكِرُ طَرِيقَةَ الصُّرُوفَيَةِ وَ تَنْزِيَةَ الْبَاطِنِ مِنَ الرَّذَائِلِ الْمَعَاصِيِ  
الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقُلُوبِ وَ الْجَوَارِحِ

”ہم صوفیا کے طریقے اور دل و اعضاء کے متعلقہ گناہوں اور رذائل سے باطن کی صفائی کے مکر نہیں“

توجہ ان کے بیٹھے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انکار نہیں کرتے تو یہ خشک اور ناہموار کیسے یہ انکار کر دیتے ہیں۔ مرضی کی بات ہوئی تا! کہ جوبات دل کو پسند آگئی وہ مان لی، وہاں کہہ دیا جی وہ ہمارے بڑے ہیں اور جوبات پسند نہ آئی وہ نہیں مانتے۔ تو بھی! آپ سید حاسید حاکہہ دیں کہ ایک ہے فقة مالکی، ایک فقة ہے حنبلی، ایک فقة شافعی، ایک فقة حنفی اور آپ ہیں فقة نقشی پر عمل کرنے والے، آپ کا امام نفس ہے۔ آپ اقتدا کر رہے ہیں نفس کی کہ جو چاہی مان لی اپنے بڑوں کی (ہمارے بڑوں کی تو چلو نہیں مانتے، توفیق ہی نہیں ہوتی) تو جو چاہی مان لی اور جو نہ چاہی اپنوں کی بھی نہ مانی۔

اب دیکھیں! ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے، ان کی نہیں مانتے اور ایک معاطلے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نہیں مانتے۔ وہ تین طلاق کے قطعی ہونے کے قائل تھے۔ دو مسئلے ہیں ایک تین طلاق کا قطعی ہونا اور ایک فاتحہ کا ہونا۔ ایک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانتے اور ایک میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

کی نہیں مانتے۔ فقدان کی نفس ہے۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جوابِ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں طبقاتِ حنابل میں لکھا ہے کہ (یہ الفاظ لکھے ہیں)

إِبْنُ قِيمٍ وَ كَانَ عَالِمًا بِعِلْمِ السُّلُوكِ وَ كَلَامِ أَهْلِ التَّصوُّفِ وَ  
إِشَارَاتِهِمْ وَ دَقَائِقِهِمْ

”یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علم سلوک اور اہل تصوف کے کام اور اس کے اسرار اور رموز کے عالم تھے“

کیسے کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا؟ سینے! ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیران پیر شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کی شرح لکھی اور ان کے فتاویٰ ہیں جس کی دسویں جلد کا نام ”کتاب علم السلوک“ رکھا۔ ”فتاویٰ ابن تیمیہ“ نکالو اور دسویں جلد دیکھو کیا ہے؟ کتاب علم السلوک ہے۔ اور تصوف کس کو کہتے ہیں؟ بھی نہ ابن تیمیہ سے تعلق جڑا، نہ ابن قیم سے جڑا، نہ عبد الوہاب نجدی سے جڑا، تو پھر جڑا کہ ہر بھی؟ ہاں ہمیں پتہ ہے کہاں جڑا؟ آپ نے کوشش کی اپنا تعلقِ محدثین اور فقہاء سے جوڑنے کی، وہاں تو جڑا نہ، ایک دوسری جگہ آٹو میٹک جا کر جڑ گیا اور ان کا نام تھا معتزلہ، لہذا آپ کے بڑے وہ ہیں۔ جوان کا اصول تھا کہ عامی کو عمل کرنے کے لیے علم کا معلوم ہونا ضروری ہے، لہذا تمہاری بھی وہی بات ہے۔ چنانچہ یہ معتزلہ کا فرقہ ہے جو آج چلا آرہا ہے، یہ ”خنک اور نہ ہموار“ کسی اور کوئی نہیں مانتے۔ یہ بات اس لیے کردی کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جی تصوف کی اتنی باتیں کر دیں، جب کہ لوگ اعتراض بھی تو کرتے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں کی حقیقت بھی کھل جائے۔

## حضرت رشید احمد گنگوہی ﷺ پر صحبت کا اثر

اب اگلی بات: بڑے بڑے علماء اپنے وقت کے مشائخ کے پاس گئے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے من میں اس فور باطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ توجہ سے ذرا بات سنئے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ﷺ علم حاصل کرنے کے بعد ابتدا میں حاجی امداد اللہ مہاراجہ کی ﷺ کی خدمت میں گئے۔ خیال یہ تھا کہ ملاقات کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ ملاقات کی پھر اجازت مانگی:

حضرت! میں واپس جانا چاہتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا: میاں رشید احمد! ہمارے پاس کچھ وقت گزارو!

حضرت! اکل میں نے سبق پڑھانا ہے، طلبہ کا نقشان ہو گا۔

بھی! صبح چلے جانا۔

حضرت! آپ کی یہ خانقاہ ہے اور رات کو یہاں سالکین اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، ذکر کریں گے، ضربیں لگائیں گے، مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، رات میں جا گتا رہوں گا اور سفر میں بھی تھکا ہوں گا تو پھر میں پڑھانیں سکوں گا۔

حضرت نے فرمایا: رشید احمد! تم سوئے رہنا، تمہیں کوئی نہیں جگائے گا۔

کہنے لگے: نہیک ہے۔

رات کو رک گئے۔ حضرت حاجی صاحب ﷺ نے خادم سے کہا کہ بھائی میاں رشید احمد کی چار پائی ہمارے قریب بچھا دینا۔ مقناع طیں کے پاس لوہا آتا ہے تو نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ رات کو سوئے فرماتے ہیں: جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا

ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رشید احمد! ورثہ الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنا تو تمہیں ہے، انہیا کی شان یہ تھی:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ وَبِالآسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

(ذاریات: ۱۸-۲۷)

قرآن کی آیتیں حتیٰ کہ حدیثیں یاد آنے لگیں۔ یہاں تک کہ بستر نے مجھے اچھال دیا، میں اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا، تہجد پڑھی، پھر دکر کرنے بیٹھ گیا۔

نجركے بعد حاجی صاحب کو ملنے گیا، حاجی صاحب نے فرمایا:  
وہ جو ہمارے پاس ذکر کر رہا تھا، وہ کون تھا؟

حضرت! میں ہی تھا۔

حاجی صاحب نے کہا: میاں رشید احمد! جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے کرو!  
اچھا حضرت! سکھا دیجیے۔

حاجی صاحب نے بیعت فرمالیا۔

بیعت ہو گئے، مچھلی پکڑی گئی۔ اب جب بیعت ہوئے تو نسبت کی تائیں تو فوراً شروع ہو جاتی ہے، دل میں خیال آیا کہ ایک اللہ والے خود کہہ رہے ہیں کہ میری صحبت میں رہو، یہ موقع پھر کب ملے گا؟ پڑھانا تو ساری زندگی ہے۔ پیغام بھیج دیا کسی اور عالم دوست کو کہ میرے طلباء کو سبق آپ پڑھادیں۔ میں ایک مہینہ حضرت کے پاس رہتا ہوں۔ ارادہ کر لیا اور ایک مہینے میں ان کو اللہ نے وہ نور دے دیا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے اجازت و خلافت دے کر ان کو واپس لٹا دیا۔ جب لوٹنے لگے تو کہا کہ حضرت! مجھے تو اپنے اندر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ میاں رشید احمد! آپ کو اجازت دی اس لیے گئی کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا تو

کبھی آپ کو خلافت نہ دی جاتی۔ حضرت دعا فرمائیں کہ مجھے رونا آجائے آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

واپس آگئے، پھر ایک سال اپنے گھر میں رہے، اب نسبت نے اڑ کیا۔ جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پہلے دن پھل تو نہیں لگتے۔ کوپل نہیں ہے، درخت بنتا ہے، پھر پھول آتے ہیں اور پھر پھل آتے ہیں، تو نام لگتا ہے۔ اسی طرح جب یہ نسبت منتقل ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ اپنی شان دکھاتی ہے۔ ایک سال کے بعد حاجی صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔

حاجی صاحب نے اب سوال پوچھا: میاں رشید احمد! یہ بتاؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی نظر آئی؟ تو کچھ سوچ کے انہوں نے کہا: حضرت! مجھے اپنے اندر تین تبدیلیاں نظر آئیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کہ بیعت سے پہلے جب میں کتب کا مطالعہ کرتا تھا تو مجھے بہت اشکال محسوس ہوتے تھے، حل کرنے کے لیے شروحتات کی طرف متوجہ ہونا پڑتا تھا، جب سے میں بیعت ہوا ہوں مجھے نصوص شرعیہ کے اندر کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔ اور دوسری بات کہ اب طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی مدح اور ذمہ میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، کوئی تعریف کرے یا بد تعریف کرے کھری بات کرتا ہوں اور مفتی کا کام بھی یہی ہے۔

اور تیسرا یہ کہ اب مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن گئی ہیں۔ یعنی جن چیزوں سے شریعت کراہت کرنی ہے ان سے میری طبیعت بھی کراہت کرتی ہے۔

حاجی صاحب نے فرمایا: میاں رشید احمد! مبارک ہو، دین کے تین درجے ہیں: پہلا علم ہے اور علم کا کمال کر نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے اور دوسرا درجہ عمل

ہے اور عمل کا کمال کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں اور تیسرا درجہ اخلاص ہے اور اخلاص کا کمال کہ دین کے معاملے میں مدح اور ذم برابر ہو۔ مبارک ہو اللہ نے علم میں بھی کمال دے دیا، عمل میں بھی کمال دے دیا اور اخلاص میں بھی کمال عطا فرمادیا۔ یہ صحبت کی برکات ہیں۔

### حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ پر صحبت کا اثر:

ہمارے پنجاب میں جامعہ اشرفیہ بڑے مدارس میں سے ہے۔ اس کے باñی تھے حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، پڑھاتے تھے، بڑے استاد تھے۔ کئی مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت بیعت کر لیجیے! حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ثال جاتے، پھر کہا، پھر ثال جاتے۔ پکنے دیتے ہیں نا! کئی مرتبہ۔ جیسے پلاو کو آخر پر دم دیتے ہیں، اس سے پھر اس کا ذائقہ بنتا ہے، تو حضرت کو تو پتہ ہوا کہ سینے میں کچھ ہے جو پک رہا ہے، اسے پکنے دو، اوپر ڈھکنا دو، اسے پکنے دو۔ حضرت! بیعت فرمائیجیے! حضرت فرماتے ہیں: مفتی صاحب! بیعت کا اصل مقصد تو ہوتا ہے محبت کا ہونا وہ تو آپ کو تو حاصل ہے تو کیا ضرورت ہے بیعت کی؟ کہنے لگے کہ ایک دن میرے اندر بھی محبت کا جذبہ ایسا اٹھا کر میں نے کہا کہ آج میں نے بیعت ہوئے بغیر نہیں جانا۔ میں گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، میں نے کہا کہ حضرت! میں نیت کر کے آیا ہوں کہ آج بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے جب یہ بات سنی تو جس کاغذ پر لکھ رہے تھے وہ ایک طرف کر دیا اور میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ اچھا مفتی صاحب! اب میری کچھ شرائط ہیں، میں نے کہا کہ فرمائیے! انہوں نے فرمایا کہ

پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو کتابیں آپ نے فلاں غیر مقلد عالم کے پاس پڑھی ہیں اور یہ جو غیر مقلدیت کے جرا شیم ہیں یہ بندے کے اندر سے نہیں نکلتے۔ لہذا ان کتابیوں کو دارالعلوم کے استاذہ سے دوبارہ پڑھیں! اور طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ یا اللہ! پڑھنا تھا تو اسکیلے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیں، نہیں نفس مٹانا مقصد تھا، جن طلباء کے استادوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، حضرت میں پڑھ لوں گا۔

دوسری شرط، فرمایا: مفتی صاحب! آپ امرتر پنجاب کے رہنے والے ہیں اور اس علاقے کے لوگ قرآن مجید کو مجهول پڑھتے ہیں، کیونکہ پنجابی زبان میں غنی بڑے ہیں۔ انسانوں تھانوں، غنے ہی غنے۔ چونکہ مجهول پڑھتے ہیں اس لیے آپ کسی قاری سے اتنی قراءت پڑھ لیں کہ فجر کی نماز آپ طوال مفصل کے ساتھ پڑھاسکیں۔ جی حضرت میں تجوید بھی پڑھوں گا۔

تیسرا شرط کہ مفتی صاحب! آپ مجھے اختیار دیں کہ میں آپ کی اہمیت سے پڑے میں بیٹھ کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ سوال پوچھوں۔ کتنے کھرے لوگ تھے کہ مجھے اختیار دے دو، حضرت! اس کی بھی اجازت۔

اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرط بھی لگادیتے کہ لوگ تو مصلی پر بیٹھ کر معمولات کرتے ہیں تم نے بیت الحلا میں کرنے ہیں تو میں اس شرط کو بھی مان لیتا۔ چنانچہ بیعت ہو گئے اور اس بیعت ہونے کے بعد اللہ نے چند نوں میں ہی سینے کو بھر دیا، چونکہ گراونڈ ورک تو پہلے سے ہوا ہوا تھا۔ ویکھیں! دیا سلامی خشک ہوتا ہے رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً جل جاتی ہے تو اگر علم پر عمل کی کوشش ہو تو دیا سلامی تو بندہ پہلے بنا ہوتا ہے، اللہ والے بس آگ لگادیتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ سجان اللہ! کیا اخلاص تھا۔

اللہ کی شان دیکھیں کہ جامعہ اشرفیہ جب نیل نبند میں شروع ہوا تو ابتدا میں پورے لاہور میں یہی بڑا مدرسہ تھا۔ مگر وہاں کے اساتذہ میں سے کچھ اساتذہ نے الگ مدرسہ بنایا اور شروع میں اسی گلی مکان کرائے پر لے کر شروع کر دیا۔ ”تیرے گھر کے سامنے“، تو حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم انہوں نے ایک ہوائی جہاز کے سفر میں یہ واقعہ خود سنایا۔ کہنے لگے میں چھوٹا تھا جب وہ مدرسہ بنتا تو مجھے بڑا غصہ، کہ ایک تو یوفائی کی دوسرا اور تھوڑا ملک تھا یہیں مدرسہ بنانا تھا۔ کہنے لگے کہ میں بڑا غصہ میں تھا اور میں ابا جی کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی! دیکھیں انہوں نے مدرسہ بھی اسی گلی میں کھولا ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا: امی نے کام بھیجا ہے، فرمایا کام کر کے واپس آؤ پھر میں تمہیں بات سمجھاؤں گا۔ کہنے ہیں میں بچہ تھا جلدی کام سینا اور بھاگا آیا اور کہا کہ سمجھائیں۔ ابا جی نے کہا کہ بیٹے! اگر تمہارے سر پر بوجھ ہوا نمازیادہ کہ تمہاری گردان ہی ٹوٹ رہی ہو اور اتنے میں کوئی واقف دوست مل جائے جو کہے بھی! آدھا مجھے دے دو میں پہنچا دیتا ہوں تو وہ تقسیم کرنے والا دوست ہو گا یا دشمن ہو گا؟ میں نے کہا ابا جی دوست ہو گا۔ فرمائے لگے پورے شہر میں ہمارا مدرسہ تھا بوجھ صرف ہمارے سر پر تھا، اب دوسرا مدرسہ بن گیا مسؤولیت تقسیم ہو گئی، وہ ہمارے دشمن نہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ یہ اخلاص کس نے سکھایا حضرت تھانوی علیہ السلام نے صحبت نے سکھایا۔

### کیمپلپوری سے کامل پوری:

چنانچہ حضرت عبدالرحمن کیمپلپوری علیہ السلام بخاری شریف پڑھاتے تھے، شیخ البخاری، سال مکمل ہوا اور سیدھا تھانہ بھون پہنچ گئے۔ حضرت بخاری شریف پڑھاتا

ہوں، رنگ نہیں پاتا، بیعت فرمائیجیے! ایسے بیعت ہوئے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیمپلپوری، کامپلپوری بن گئے۔

### چہالت کا اندازہ:

حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ عالم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے، پوچھا حضرت تصوف کیا بلا ہے؟ فرمایا: اپنے آپ کو منادی نے کا دوسرا نام تصوف ہے۔ حضرت دین میں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ فرمایا تم چند دن میرے پاس رہو، شرط یہ ہے کہ زبان نہیں کھلونی، علامہ تھے نا آخر۔ کہنے لگے کہ میں نے ہاں کر دی۔ ابھی دو دن نہیں گزرے تھے، حضرت کی محبت اور توجہات کا یہ عالم تھا کہ میرے سارے اشکال دور ہو گئے اور میں نے اپنے آپ کو بیعت کے لیے پیش کر دیا۔ اب واپس آئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر آئے وہ بوریا شیں سا بندہ تھانبست اس کے ساتھ جا کر قائم کر لی، آپ تو عالمی شخصیت تھے۔ تو حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تو مجھے علامہ کہہ رہے ہیں مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر اپنی چہالت کا اندازہ ہوا۔

### اگر کوئی شعیب آئے میسر:

تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اس نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سر ٹوکرنا پڑے گا۔

گَالْمَيْتُ بَيْنَ يَدَيِ الْفَسَالِ

”جیسے عسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے“

— اگر کوئی شعیب آئے میسر  
شبانی سے لکھی دو قدم ہے

مویٰ علیہ السلام دیکھو شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس سے پہلے تو ہمکلامی نہیں تھی، شعیب علیہ السلام ملے تو پھر ہمکلامی بھی نصیب ہو گئی، تو کہنے والے نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی شعیب مل جائے۔ تو پہلے بکریوں کے شبان تھے راعی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم بنا دیا۔

— گر تو سنگ خارہ مرمر شوی  
چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی  
سنگ مرمر بھی ہے، کسی اللہ والے کے پاس آ جاؤ وہ اللہ والا تجھے ہیرا اور موتنی بنا کر رکھو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنے بیٹھنے سکھنے اور اپنے آپ کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر  
انہی کے اتنا پر ناز کرتی ہے مسلمانی  
اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئیں  
جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو خن دانی

وَأَخِرُّ دُعَوَاتِنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

